

سلسلہ درسِ حدیث

# کتاب الصوم

(مشکلۃ المصاتح)

کے عام فہم مطالب

از

مولانا سید ابوالا علی مودودی

جمع و تدوین

حافظ الرحمن احسن

## فہرست مضمایں

### Table of Contents

عرض مرتب.....	12
مختلotta المصانع.....	15
مصانع اللہ کے مقابلے میں مختلotta المصانع میں:.....	15
ابتدائیہ.....	17
رمضان المبارک۔۔۔ تقویٰ عبودیت اور شکر گزاری کا الی نصاب.....	17
<b>كتاب الصوم</b>	19
الفضل الاول.....	19
رمضان۔۔۔ نیکیوں کا موسم بہار.....	19
جنت کا ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہو گا:.....	21
تمام گزشته گناہوں کی بخشش کا زمانہ:.....	21
روزے کے اجر کی کوئی حد نہیں:.....	23
روزے کی یہ غیر معمولی فضیلت کیوں؟.....	23
روزہ دار کے لیے دو فرحتیں:.....	24
روزہ۔۔۔ برائیوں کے مقابلے میں آدمی کی ڈھال:.....	24
الفضل الثاني.....	25
جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ:.....	25
شیطان کیونکر جکڑا جاتا ہے؟.....	25
رمضان کی پکار:.....	26

26 .....	آگ سے چھکارا پانے والے:
26 .....	اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے:
26 .....	<b>الفصل الثالث</b>
26 .....	ہزار مہینوں سے بہتر رات:
27 .....	جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ محروم ہی رہ گیا:
28 .....	روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے:
28 .....	لیلۃ القدر سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے:
29 .....	رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ:
31 .....	رمضان کے زمانے میں یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟
32 .....	اس صبر کی جتنی مشق رمضان میں ہوتی ہے اتنی اور کسی زمانے میں نہیں ہوتی:
34 .....	رمضان المبارک میں حضور کی شفقت اور فیاضی کی دو مثالیں:
35 .....	جنت ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کی آمد تک مسلسل سجائی جاتی ہے:
36 .....	رمضان کی آخری رات کو امت مسلمہ کی مغفرت ہو جاتی ہے:
36 .....	<b>بابِ زؤیۃ الہلَال</b>
36 .....	<b>الفصل الاول</b>
36 .....	رمضان کے آغاز اور اختتام کا فیصلہ رویت ہلال پر ہے:
37 .....	اگر ۲۹ شعبان کو چند نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن پورے کیے جائیں:
40 .....	اسلامی عبادات کے لیے قمری حساب کو اختیار کرنے کی حکمت:
42 .....	رمضان اور ذوالحجہ (اجر و فضیلت کے لحاظ سے) کبھی ناقص نہیں ہوتے:
42 .....	رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے روزہ رکھنا منوع ہے:
43 .....	<b>الفصل الثانی</b>
43 .....	نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا منوع ہے:
44 .....	رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرنے کا حکم:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے:	44
شک کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں:	45
رویتِ ہلال کی شہادت صرف مومن کی معتبر ہے:	45
رویتِ ہلال رمضان کے لیے ایک مسلمان کی شہادت کافی ہے:	47
<b>الفضل الثالث.....</b>	48
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخیں معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے:	48
ایک مہینے کی مدت دوسرے مہینے کا ہلال نظر آنے تک ہے:	48
<b>باب فی مسائل متفقہ من كتاب الصوم.....</b>	49
<b>الفضل الأول.....</b>	49
سحری کرنے میں برکت ہے:	49
اسلامی عبادات کا مقصد تربیت و تزکیہ نفس:	50
اسلام میں عبادات کا تصور بکسر مختلف ہے:	50
سحری کھانے میں کیا برکت ہے:	51
اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق:	51
جلدی افطار کرنے میں بھلائی ہے:	52
اسلام برائی کو مقام آغاز سے روکتا ہے:	52
روزہ کھولنے کا صحیح وقت:	53
صوم وصال رکھنا جائز نہیں:	53
<b>الفضل الثاني.....</b>	54
روزے کی نیت کرنا ضروری ہے:	54
سحری کے وقت میں گنجائش ہوتی ہے:	55
افطار میں جلدی کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں:	55
افطار کے لیے افضل چیزیں:	56

56	روزہ افطار کرنے والے کا اجر:
57	افطار کے وقت کی مسنون دعائیں:
58	<b>الفصل الثالث</b>
58	افطار میں تاخیر کرنا یہود و نصاریٰ کی روشن ہے:
59	روزہ کھولنے اور نماز پڑھنے میں جلدی کرنا مسنون ہے:
60	سحری کا کھانا ایک مبارک ناشتمان ہے:
61	بہترین سحری کھجور ہے:
61	<b>باب تمذیہ الصّوْم</b>
62	<b>الفصل الاول</b>
62	روزے سے مقصود تقویٰ ہے نہ فاقہ کشی:
62	جھوٹ پر عمل کرنے سے کیا مراد ہے؟:
63	روزے کی حالت میں بیوی سے میل جوں کے حدود:
63	حالتِ جنابت میں روزہ شروع کیا جا سکتا ہے:
64	احرام اور روزے کی حالت میں پچھنے لگوانے کا جواز:
64	بھولے سے کھاپی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا:
65	قصدًاً روزہ توڑنے کا کفارہ:
67	<b>الفصل الثانی</b>
67	روزے کی حالت میں بیوی سے میل جوں کا مسئلہ:
68	خود بخود قت آجائے سے روزہ نہیں ٹوٹتا:
68	قت آجائے پر نفلی روزہ کھول لینا جائز ہے:
69	روزے کی حالت میں مسوک کرنا جائز ہے:
69	روزے کی حالت میں سرمہ لگانے کا مسئلہ:
69	روزے کی شدت کم کرنے کے لیے نہانا اور سر پر پانی ڈالنا جائز ہے:

70.....	روزے کی حالت میں پچھنے لگانے کا مسئلہ:
71.....	ساری عمر کے روزے بھی رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے:
71.....	اصل مطلوب روزے کی ظاہری شکل نہیں بلکہ اس کی حقیقی روح ہے:
72.....	<b>الفضل الثالث</b>
72.....	تین چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا:
73.....	روزے کی حالت میں پچھنے لگانے کی صحیح شرعی حیثیت:
73.....	روزے کی حالت میں پچھنے لگانے کے متعلق حضرت عبد اللہ بن عمر کا عمل:
73.....	کلی کرنے کے بعد تھوک لگنے اور مصطفیٰ وغیرہ چبانے کا مسئلہ:
74.....	<b>باب صَوْمُ الْمُسَافِرِ</b>
74.....	<b>الفضل الاول</b>
74.....	سفر کی حالت میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں جائز ہیں:
75.....	سفر میں روزہ رکھنے اور رکھنے والے ایک دوسرے پر اعتراض نہ کریں:
76.....	اگر برداشت سے باہر ہو تو سفر میں روزہ نہ رکھا جائے:
77.....	مشکل سفر درپیش ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے:
78.....	سخت مجبوری میں روزہ قبل از وقت کھول لینا درست ہے:
79.....	<b>الفضل الثاني</b>
79.....	مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے:
79.....	سفر میں مشکلات درپیش نہ ہوں تو روزہ رکھنا چاہیے:
80.....	<b>الفضل الثالث</b>
80.....	فتح مکہ کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ افطار کرنے کا واقعہ:
81.....	سفر میں (جب کہ سخت پیش آنے کا خدشہ ہو) روزہ رکھنا مناسب نہیں:
82.....	سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت اللہ کی بخشی ہوئی ایک رخصت ہے:
82.....	<b>باب القضا</b>

الفَضْلُ الْأَوَّلُ.....	83
رمضان کے قضا روزے شعبان کے نصف آخر میں بھی رکھے جا سکتے ہیں:.....	83
نفلی اور قضا روزے رکھنے سے پہلے بیوی کو شوہر سے اجازت لینی چاہیے:.....	83
حائِنہ عورت پر روزوں کی قضا لازم آتی ہے مگر نمازوں کی نہیں:.....	84
کیا فوت شدہ آدمی کے روزوں کی قضا اُس کے ولی کے ذمے ہو گی؟.....	85
الفَضْلُ الثَّالِثُ.....	85
فوت شدہ آدمی کے قضا روزوں کے بدلتے میں مساکین کو کھانا کھلانے کا مسئلہ:.....	85
الفَضْلُ التَّالِيُّ.....	86
کوئی شخص کسی دوسرے کے بدلتے میں نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے:.....	86
<b>بَابِ صِيَامِ التَّطَوُّعِ.....</b>	87
الفَضْلُ الْأَوَّلُ.....	87
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھتے تھے:.....	87
حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے سوا کسی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے:.....	88
شعبان کے آخری دو دنوں کے روزوں کا مسئلہ:.....	88
ماہ محرم کے روزوں اور نماز تہجد کی فضیلت:.....	89
عاشراء (دسویں محرم) کے روزے کی فضیلت:.....	91
عاشراء کے ساتھ نویں یا گیارہویں تاریخ کا روزہ ملانا ضروری ہے:.....	91
عرفة (۹ ذی الحجه) کے روزے کا مسئلہ:.....	92
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجه کے عشرہ اول کے پورے روزے کبھی نہیں رکھے:.....	93
نفلی روزوں کا مسنون طریقہ:.....	93
پیر کے روزے کی فضیلت:.....	96
ہر مہینے میں تین نفلی روزے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے:.....	97
رمضان کے ساتھ شوال کے چچے نفلی روزے رکھنے والا صائم الدہر ہے:.....	97

97.....	عید الفطر اور عید الاضحی کے دن کوئی روزہ نہیں:
98.....	ایام تشریق میں روزہ رکھنا درست نہیں:
98.....	جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینا جائز نہیں:
99.....	جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینا درست نہیں:
101.....	خدا کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھنے کا غیر معمولی اجر:
102.....	نفلی عبادات میں اعتدال کی ضرورت:
104.....	<b>الفضل الثانی</b>
104.....	پیر اور جمعرات کے نفلی روزوں کی فضیلت:
105.....	پیر اور جمعرات کے دنوں کی فضیلت:
105.....	ہر مہینے کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخوں میں روزہ رکھنے کی ہدایت:
105.....	حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ابتدائی تین دنوں کے روزے رکھتے تھے:
107.....	نفلی روزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ:
108.....	نفلی روزوں کے متعلق حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت:
108.....	کون سا شخص صائم الدہر ہے؟
109.....	میدانِ عرفات میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا درست نہیں:
110.....	ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں:
110.....	خدا کی راہ میں ایک دن کے روزے کا غیر معمولی آجر:
111.....	سرما کا روزہ۔۔۔ غنیمت بارہہ۔۔۔
111.....	<b>الفضل الثالث</b>
111.....	عاشراء کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے:
112.....	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہفتہ اور اتوار کا روزہ اکثر رکھنے کی حکمت:
113.....	حضور صلی اللہ علیہ وسلم صیامِ رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشراء کے روزے کی تاکید فرمایا کرتے تھے:

چار کام جنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے تھے:..... 113

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے التزام سے رکھتے تھے:..... 114

روزہ جنم کی زکوٰۃ ہے:..... 114

پیر اور جمرات کے نفلی روزوں کی فضیلت:..... 115

خدا کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت:..... 116

### **بَابِ فِي الْأَفْطَارِ مِنَ النَّطَوْعِ**

**الْفَضْلُ الْأَوَّلُ**..... 117

نفلی روزہ قبل از وقت افطار کرنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عمل:..... 117

نفلی روزے کی قضا کا مسئلہ:..... 117

کھانے کی دعوت قبول کرنا مسنون ہے:..... 118

**الْفَضْلُ الثَّانِي**..... 119

نفلی روزہ قبل از وقت افطار کیا جا سکتا ہے:..... 119

نفلی روزے کی قضا کا مسئلہ:..... 120

نفلی روزہ رکھنے والے کی فضیلت:..... 120

**الْفَضْلُ الثَّالِثُ**..... 121

نفلی روزہ رکھنے کا اجر:..... 121

### **بَابِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ**

**الْفَضْلُ الْأَوَّلُ**..... 121

لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاقت راتوں میں ہے:..... 121

قدر سے کیا مراد ہے؟..... 122

لیلۃ القدر کے بارے میں صحابہ کرام کا خواب:..... 122

لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاقت راتوں میں تلاش کرنے کی ہدایت:..... 123

لیلۃ القدر کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا رمضان اعتکاف میں گزرنے کا واقعہ:..... 123

رمضان کی ستمائیسویں شب کے لیلۃ القدر ہونے کے متعلق ایک روایت:	125
عشرہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام عبادات:	126
رمضان کے عشرہ آخر میں حضور کا اہتمام عبادات:	126
<b>الفصل الثانی.....</b>	
لیلۃ القدر کی دعا:	126
لیلۃ القدر کو رمضان کے عشرہ آخر کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ہدایت:	127
لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے:	127
حضرت عبد اللہ بن اُنفیس کو ہر ماہ کی تیسیسویں شب مسجد نبوی میں گزارنے کی نصیحت:	127
<b>الفصل الثالث.....</b>	
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا:	128
اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں پر فخر کرتا ہے:	129
<b>باب الاعتكاف.....</b>	
<b>الفصل الاول.....</b>	
اعتكاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت:	129
رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا فیاضی اور جبریل کے ساتھ تھوڑہ قرآن:	130
جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے:	131
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دورانِ اعتكاف میں ناگزیر ضرورت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے:	131
جاہلیت میں مانی ہوئی کسی نیک کام کی نذر پوری کرنی چاہیے:	132
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معنکف میں داخل ہو جاتے تھے:	132
<b>الفصل الثانی.....</b>	
حضور رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتكاف فرماتے تھے:	133
حالتِ اعتكاف میں مریض کی عیادت کا مسنون طریقہ:	134
حالتِ اعتكاف میں ممنوع کام، اور اعتكاف کی دو شرطیں:	134

135 .....	أفضل الثالث
135 .....	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتکف کی کیفیت:
135 .....	معتکف کے حق میں لکھی جانے والی نیکیاں:

## عرض مرتب

تَحْمِدُهُ وَتُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى الْهُدَى وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اوخر ۱۹۶۷ء میں جب رقم الحروف نے ہفت روزہ "آئین" لاہور میں مولانا سید ابوالا علی صاحب مودودی نہ ناظم العالی کے ہفتہ وار درسِ حدیث کو مرتب کر کے شائع کرنا شروع کیا تو اسے بے حد پسند کیا گیا۔ مولانا محتشم کے دینی سرمایہ علم و حکمت کے قدر شناسوں نے اس کو شش کواپنی دیرینہ آرزو کی تکمیل کا وسیلہ سمجھا اور ان کی طرف سے چیم مطالبه شروع ہوا کہ اسے کتابی صورت میں شائع کیا جائے۔ چنانچہ کتاب الصوم کی تکمیل پر رقم الحروف نے لکھا:

آئین میں مولانا محتشم کے درسِ حدیث کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہونے پر قارئین اور رفقاء کی طرف سے یہ تجویز آتی رہی ہے کہ موجودہ باب کی تکمیل پر اس کو کتابی صورت میں شائع کرنے کا اہتمام کیا جائے تاکہ تشریح حدیث کا ایک قابل قدر مجموعہ دلدادگان بصائرِ نبوی کے ہاتھوں تک پہنچ سکے۔ خود رقم الحروف کی دلی خواہش بھی یہ رہی ہے کہ ایک ایسا مجموعہ مرتب کر کے مولانا محتشم کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ ان کی اجازت اور نظر ثانی کے بعد اسے کتابی شکل میں شائع کیا جاسکے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تشکانی شوق کو اس مجموعے کے لیے ایک حصے تک زحمت کش انتظار ہنپڑے گا، کیونکہ:

اولاً یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ درسِ حدیث کے یہ متن اپنی موجودہ شکل میں کسی مربوط علمی اور تحقیقی تصنیف کے قائم مقام متصور نہیں ہو سکتے۔ الا یہ کہ ان پر مفصل نظر ثانی کی جائے اور تحقیقی محنت صرف کر کے انھیں تصنیفی معیار پر لایا جائے (مولانا موصوف کی رائے بھی ہے)

ثانیاً یہ کہ مولانا محتشم تفہیم القرآن کی مصروفیت کی وجہ سے فی الحال کسی اور تصنیفی یا تحقیقی کام کی طرف توجہ نہیں دے سکتے۔ یہ امر واضح ہے کہ تفہیم القرآن کی تکمیل بجائے خود ایک بڑا کام ہے اور اس کی تکمیل مولانا محتشم کو اور ہم سب کو عزیز ہے، اس لیے فی الحال اس مبارک وقت کا انتظار ہی مستحسن ہے جب کہ مولانا محتشم اس کام کے لیے وقت نکال سکیں۔ اس دوران میں رقم الحروف کی کوشش یہ رہے گی کہ وہ مطبوعہ مواد کو ایک مرتب شکل میں محفوظ کر لے تاکہ جب اور جیسے اللہ کو منظور ہو، مولانا کی نظر ثانی کے بعد اس کو شائع کیا جاسکے" (آئین ۷، جولائی ۱۹۶۷ء)

اس کے بعد مسلسل ایسے حالات پیش آتے رہے کہ اس کام کا پایہ تکمیل تک پہنچا غیر یقینی ہوتا چلا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو تفہیم القرآن کے کام کی طرف مولانا محتشم کی خصوصی توجہ تھی اور دوسری وجہ ملک کی طوفانی سیاسی زندگی سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ان کی غیر معمولی مصروفیت تھی، اور صحت کی مسلسل خرابی اس پر مستزد تھی۔ اس دوران میں ایک لمبا زمانہ ایسا بھی گزارا ہے جس میں بیماری اور اس کے علاج کی وجہ سے مولانا محتشم کی ساری علمی اور سیاسی سرگرمیاں سرے سے معطل ہی رہیں۔ اس قسم کے حالات میں یہ کام مسلسل ملتا رہتا آئکہ جب گزشتہ سال (جولائی ۱۹۷۱ء میں) میں نے مذکورہ مرتب شدہ مجموعہ پر مولانا محتشم سے نظر ثانی کی درخواست

کی تو انہوں نے اپنی کمزور صحت کی بنابر اسی کام سے معدود ری کا اٹھاڑ فرمایا، البتہ مجھے اس امر کی اجازت مرحمت فرمادی کہ میں اس پر ضروری محنت صرف کر کے دو باتوں کی تصریح کے ساتھ اسے شائع کر دوں:

اولاً یہ کہ اس کتاب میں شائع شدہ دروسِ حدیث کو ان درسوں پر قیاس نہ کیا جائے جو دینی مدارس میں حدیث کے طالب علموں کے سامنے دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ درس ہفتہ وار اجتماعات میں افادۂ عام کے لیے دیے گئے ہیں اور ان میں مخاطبین کی ذہنی سطح اور ضرورت کو ملحوظ رکھ کر مطالبِ حدیث کیوضاحت کی گئی ہے۔

ثانیاً یہ کہ اس کتاب کو مولانا محترم کی اپنی تحریر کی حیثیت حاصل نہیں ہے بلکہ مرتب نے تقریری مواد کو ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے تحریر کے سانچے میں ڈھالا ہے۔

حق تو یہی تھا کہ اس کتاب پر نظر ثانی کرنے اور اس کو تفصیلی معیار پر لانے کا کام خود سید محترم ہی کرتے یا کم از کم اس نازک ذمہ داری کا بوجھ کوئی ایسے صاحبِ علم اٹھاتے جو قرآن و حدیث کے وسیع علم سے بہرہ ور ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ کی باریکیوں سے بھی آگاہ ہوتے تاکہ تشریح حدیث کا یہ قیمتی سرمایہ زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد طریقے سے مرتب و مدقون ہوتا، لیکن اسے حالات کی نیزگی کہیے کہ اس کلٹھن فریضے کی ادائیگی کا کام مجھ ایسے ہی تھی مدعا کو کرنا پڑا جوں تو دینی علوم سے کوئی قابل ذکر شناسائی رکھتا ہے اور نہ زبان و ادب ہی سے اسے کوئی بہرہ و افرملا ہے۔ ایک طرف اپنی علمی بے ماگی کا یہ شدید احساس اس کام کی جانب پیش قدمی سے روکتا رہا اور دوسرا طرف یہ جذبہ پیتاب سمندِ شوق کے لیے مہیز کا کام کرتا رہا کہ یہ عظیم سعادت اگر تمہارے حصہ میں آجائے تو فلاح آخری کا ذریعہ بن سکتی ہے۔

سو اسی قسم کے احساسات کے درمیان توفیق ایزدی کا سہارا لے کر مقدور بھر کچھ نہ کچھ کرتا رہا۔ چنانچہ یہ محض اُسی کا فضل و احسان ہے کہ جو تھوڑی بہت محنت و کوشش مجھ سے بن پڑی ہے اس کا ثمر اس کتاب کی شکل میں قارئین کرام کی نظر کر رہا ہوں، اور خداۓ بزرگ و برتر کے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ میری اس کو شش کو شرف قبول سے نوازے اور اسے میرے لیے آخری اور دنیوی فلاح و سعادت کا ذریعہ بنائے۔ آمین خداۓ عزوجل سے میری یہ بھی دعا ہے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم کے اس گلدتے کو اپنے بندوں کے لیے اُسی طرح ذریعہ رشد و ہدایت بنائے جس طرح اُس نے سید محترم کے دوسرے دینی سرمایہ علمی کو اس شرفِ خاص سے مشرف فرمایا ہے۔ توقع رکھنی چاہیے کہ یہ کتاب مولانا نے محترم کی اُن مسامی جیلیہ کا ایک حصہ قرار پائے گی جو انہوں نے اس دور میں سنت نبوی علی صاحبِ جہاۃ الصلوٰۃ والتسالیم کے دفاع و تحفظ، اس کی تشریح و توضیح، اس کے متعلق معاذین کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کو رفع کرنے اور اس پر ملت اسلامیہ کے ایمان و اعتقاد کو محکم بنانے کے سلسلے میں انجام دی ہیں۔ ان شاء اللہ العزیز۔

میں اس موقع پر اہل علم حضرات سے یہ درخواست کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کتاب میں کوئی علمی فرو گزاشت پائیں تو اسے میری کوتاہی علم پر محمول کریں اور مجھے اس سے آگاہ کر کے ممنون فرمائیں تاکہ کتاب کی آئندہ طبع کے موقع پر اس کی اصلاح و تلافی کی جاسکے۔ یہاں یہ وضاحت قارئین کے لیے دلچسپی اور افادے کی موجب ہو گی کہ پیش نظر کتاب حدیث نبوی کے مشہور و مقبول مجموعہ مشکلوٰۃ المصالح میں سے کتاب الصوم کی تشریح پر مشتمل ہے۔ علاوہ بریں یہ بات بھی واضح رہے کہ احادیث کے آغاز میں جو عنوان لکھے گئے ہیں وہ مشکلوٰۃ کے متن کا حصہ نہیں ہیں بلکہ یہ مرتب نے احادیث کے بعض اہم مضامین کی مناسبت سے خود قائم کیے ہیں۔

میں آخر میں اپنے رفیق محترم جناب مطفر بیگ صاحب مدیر، آئین ” کے اس گرانقدر تعاون کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنے موقر جریدے میں ان دروسِ حدیث کی اشاعت کے سلسلے میں مجھے عطا کیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان درسوں کی ترتیب و اشاعت کے حقیقی محترک وہی ہیں اور اگر وہ مجھے اس خدمت کی طرف متوجہ نہ کرتے تو میں شاید ایک عرصے تک اس کام کو کرنے کا رادہ نہ کر سکتا۔  
فجزاہ اللہ فی الدارین خیراً

احقر

حقیظ الرحمن احسن

## مشکلہ المصانع

پیش نظر کتاب حدیث نبوی کے مشہور و مقبول مجموعہ مشکلہ المصانع کے ایک جزء کتاب الصوم کی تشریح پر مشتمل ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مشکلہ کا مختصر ساتھارف کرا دیا جائے۔

مشکلہ المصانع آٹھویں صدی ہجری کے ایک تاجر عالم و فقیہ اور جلیل القدر محدث ولی الدین محمد بن عبد اللہ تبریزی رحمہ اللہ<sup>1</sup> کی نادر تالیف ہے۔ اس کی بنیاد مشہور محدث، مفسر اور فقیہ امام بغوی رحمہ اللہ<sup>2</sup> کے مرتب کردہ مجموعہ حدیث "مصنوع السنۃ" پر رکھی گئی ہے، جس کی تہذیب و اصلاح کر کے مزید احادیث کے اضافے سے نیا مجموعہ مشکلہ المصانع کے نام سے ترتیب دیا گیا۔

مشکلہ المصانع اور اس کے مؤلف علامہ تبریزی رحمہ اللہ کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ یہ کتاب انہوں نے اپنے جلیل القدر استاد علامہ حسین بن عبد اللہ الطیبی رحمہ اللہ<sup>3</sup> کے مشورے اور ایسا پر مرتب کی، اور جب یہ مرتب ہو چکی تو ان کے استاذ محترم نے خود اس کی ایک جام شرح، "الکَاشِفُ عَنْ حَقَائِقِ السُّنْنَ" کے نام سے تحریر کی۔

مشکلہ المصانع کی اہمیت اور خصوصیات کو جانتے کے لیے ضروری ہے کہ امام بغوی کی مصائبِ السنۃ کی خصوصیات پر ایک نظر ڈال لی جائے:

۱۔ مصنوع السنۃ میں احادیث کو فہمی ابواب کی ترتیب سے جمع کیا گیا تھا اور ہر باب میں دو فصلیں قائم کی گئی تھیں۔ ایک فصل میں صرف امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ کی روایت کردہ احادیث جمع کی گئی تھیں اور دوسری فصل میں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہیقی اور دارقطنی وغیرہم کی روایات کو جگہ دی گئی تھی۔

۲۔ صاحب مصنوع السنۃ کے راویوں اور متعلقہ کتب احادیث کے حوالے کے بغیر جمع کیا تھا۔ اس سے طالبان حدیث کو ان احادیث کے مصادر و آخذہ کا پتہ لگانے اور باعتبار سنداں کی صحت اور مقام و مرتبہ کے تعین میں مشکل پیش آتی تھی۔

### مصنوع السنۃ کے مقابلے میں مشکلہ المصانع میں:

۱۔ صاحب مشکلہ نے مصنوع السنۃ کی پہلی دو فصلوں پر ایک تیری فصل کا اضافہ بھی کیا ہے، اور احادیث کا انتخاب کرتے ہوئے صحاح ستہ (بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ) کے علاوہ "شَعْبُ الْإِيمَانُ لِلْبَهِقِی"، مسنداً امام احمد اور مسندر زین وغیرہا کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔ اس طرح موضوع کی مناسبت سے بہت سی مزید اہم احادیث اس مجموعہ میں آگئی ہیں۔ مصنوع السنۃ کی تعداد ۴۳۴ تھی جب کہ مشکلہ میں یہ تعداد ۵۹۴ ہو گئی۔

<sup>1</sup> افسوس ہے کہ آپ کی تاریخ دلادت ووفات کی تحقیق نہیں ہو سکی۔ تاہم یہ معلوم ہے کہ وہ مشکلہ کی تالیف سے ۷۴۳ھ میں فارغ ہوئے۔

<sup>2</sup> محبی السنۃ ابو محمد الحسین بن مسعود الفرقان للبغزی، وفات ۷۶۵ھ

<sup>3</sup> وفات ۷۴۳ھ

پونکہ مشکلۃ المصانح تمام مستند کتب احادیث کا ایک مختصر لیکن جامع اور وقوع انتخاب ہے اس لیے اس کو طلبہ حدیث، علمائی اور عام مسلمانوں میں جو قبول عام حاصل ہوا وہ اس نوع کی کم ہی کتابوں کو نصیب ہوا ہے۔ یہ کتاب مختلف فقہی مکاتب فکر میں یکساں مقبول و مروج ہے اور دینی درسگاہوں میں عام طور پر سبقاً سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی مقبولیت اور اہمیت کا اندازہ ان شرحوں سے بھی لگایا جاسکتا ہے جواب تک عربی، اردو اور بعض دوسری زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ کتب حدیث میں صحیحین کے بعد یہ اعزاز اسی کتاب کو حاصل ہوا ہے۔

عربی شرحوں میں علامہ الطیبی رحمہ اللہ کی شرح (جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے)، مِرْفَأُ الْمَفَاتِيحُ (ملاعی قاری) لماعت (شیخ عبدالحق محدث دہلوی)، التَّعلِيقُ الصَّلِیْحُ (مولانا محمد اوریس کاندھلوی) اور مِنْهَاجُ الْمِشْکوْةُ (عبدالعزیز الابھری) اہم ہیں۔ فارسی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شرح آشُعَةُ الْمَعَاتُ معروف ہے۔ اردو میں مولانا عبد الغفور غمنوی کا ترجمہ و حواشی (جو آج کل نایاب ہے) اور مولانا قطب الدین کی مظاہر حق قبل ذکر ہیں۔ ایک انگریزی ترجمہ بھی ۱۸۰۹ء میں شائع ہو چکا ہے۔

مشکلۃ المصانح کے مختلف اجزاء پاکستان کے مختلف تعلیمی نصابوں میں شامل ہیں۔۔۔۔۔ کتاب الصوم پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے اسلامیات کے نصاب کا ایک حصہ ہے۔

(مرتب)

## ابتدائیہ

## رمضان المبارک۔۔ تقویٰ عبودیت اور شکر گزاری کا الہی نصاب

لَا يَأْتِهَا الَّذِينَ أَمْئُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ

اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروؤں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو گی۔

۱۔ رمضان کے روزے ہجرت کے اٹھارہ مہینے بعد فرض ہوئے۔ تحويل قبلہ کا حکم اس سے کوئی ڈیڑھ دو ماہ پہلے آیا تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید، احادیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ مولہ بالا آیت میں رمضان کے روزوں کے متعلق حکم دیتے ہوئے کتب علیکم الصیام کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور کتب کا لفظ فرضیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بنابریں قرآن مجید سے ثابت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَةِ ، وَالْحَجَّ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ یعنی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

۱. اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔

2. نماز قائم کرنا۔

3. زکوٰۃ ادا کرنا۔

4. بیت اللہ کا حج کرنا اور

5. رمضان کے روزے رکھنا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ فرض ہی نہیں ہے بلکہ رکن اسلام ہے۔

۲۔ ”اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے تین دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے۔ پھر ۲ ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا، مگر اس میں اتنی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں، وہ روزے کے بد لے ایک مسکین کو کھانا کھلادیا کریں۔ بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام رعایت منسوج کر دی گئی۔ لیکن مریض اور مسافر اور حاملہ یادو دھپلانے والی عورت اور ایسے بڑھے لوگوں کے لیے، جن میں روزے کی طاقت نہ ہو، اس رعایت کو بد ستور باقی رہنے دیا گیا۔“<sup>1</sup>

۳۔ سورہ مقرہ ہی میں آگے چل کر روزوں کا ایک مقصد یہ بیان ہوا ہے:

<sup>1</sup> تفسیر القرآن جلد اول، ص: ۱۴۱

وَلَئِكَرِبُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز فرمایا ہے، اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراض کرو اور شکر گزار بنو۔

معلوم ہوا کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور صرف تقویٰ کی تربیت ہی قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ انہیں مزید برآں اُس عظیم الشان نعمت ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکر یہ بھی ٹھہرایا گیا ہے، جو قرآن کی شکل میں اُس نے عطا فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک داشمند انسان کے لیے کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے اعتراض کی بہترین صورت اگر ہو سکتی ہے، تو وہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے، جس کے لیے عطا کرنے والے نے یہ نعمت عطا کی ہو۔ قرآن ہم کو اس لیے عطا فرمایا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کار استہ جان کا خود اس پر چلیں اور دنیا کو اس پر چلاں۔ اس مقصد کے لیے ہم کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ المذاخنُوْل قرآن کے مہینے میں ہماری روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے اور صرف اخلاقی تربیت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود اس نعمتِ قرآن کی بھی صحیح اور موزوں شکر گزاری ہے۔<sup>1</sup>

سکتہ کے مریض کا آخری امتحان اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی ناک کے پاس آئینہ پر کچھ دھندا لہٹ پیدا ہو تو سمجھتے ہیں کہ ابھی جان باقی ہے، ورنہ اس کی زندگی کی آخری امید بھی متقطع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی کسی بستی کا تمہیں امتحان لینا ہو تو اسے رمضان کے مہینے میں دیکھو۔ اگر اس مہینے میں اس کے اندر کچھ تقویٰ، کچھ خوبی خدا، کچھ نیکی کے انجام کا جذبہ نظر آئے تو سمجھو ابھی زندہ ہے۔ اور اگر اس مہینے میں نیکی کا بازار سرد ہو، فسق و فجور کے آثار نمایاں ہو، اور اسلامی حس مردہ نظر آئے، تو انَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لو۔ اس کے بعد زندگی کا کوئی سانس مسلمان کے لیے مقدر نہیں ہے۔

سید ابوالا علی مودودی

<sup>1</sup> تفہیم القرآن جلد اول، ص: ۱۴۳

# كتاب الصوم

## الفصل الأول

رمضان۔۔ نیکیوں کا موسیم بہار

(1) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ فِي رِوَايَةٍ فُتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَسُلِّسِلَتِ الشَّيَاطِينُ - وفي رواية : " فُتَحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ " ( متفق عليه )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، (ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں) اور جہنم کے دروازے بند کردیے جاتے ہیں، اور شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ ” ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔<sup>1</sup> (متفق عليه)<sup>2</sup>

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے آغاز میں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے خطبات دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی خطبات میں سے ایک یہ خطبہ ہے۔

اس ارشاد نبوی کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہاں مخاطب وہ مسلمان ہیں جن سے زیادہ سچے اور پکے مومن انسانی تاریخ میں نہیں دیکھیے گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی ہیں عام طور پر اپنے خطبات جمعہ میں ارشاد فرمائی ہیں، اور جمعہ کی نماز کے وقت جو لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی کمزور ایمان کے یا اتباع اوامر میں کو تاہیا کرنے والے مسلمان ہوں گے۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ ان ہدایات کے مخاطب وہ سچے اہل ایمان ہیں جو نہایت صالح اور متین تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بس رکنے والے اور اس کی ہدایات کی پیروی کرنے والے تھے۔ اُن سے یہ فرمایا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان (یا جنت یا رحمت) کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مدعا مخالفین کو یہ سمجھانا ہے کہ رمضان کی آمد کے بعد جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ، جنت کے سب دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اگر صدقہ و خیرات کے دروازے سے جنت میں پہنچ سکتے ہو تو روزے کے دروازے سے پہنچو۔ اگر روزے کے دروازے سے پہنچ سکتے ہو تو روزے کے دروازے سے پہنچو۔ اگر تلاوت قرآن کے راستے سے پہنچ سکتے ہو تو اس راستے سے پہنچو۔ اگر برائیوں سے اجتناب کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہو تو اس ذریعے سے پہنچو۔ الغرض جنت میں پہنچنے کے لیے تمام دروازے پوری طرح تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اور اب یہ تمہارا کام ہے کہ خود کو جنت کے قابل بنالو۔

پھر فرمایا کہ ”جہنم کے دروازے بندے کر دیے جاتے ہیں۔“

<sup>1</sup> معلوم ہوتا ہے کہ ان خطبات میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابواب انسانی کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، کبھی ابواب الجنتے کے اور کبھی أبواب الرحمة کے اور مدعا ان سب کا ایک ہے۔

<sup>2</sup> متفق عليه سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہو۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے زمانے میں اُن برائیوں کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں جن میں ایک آدمی دوسرے زمانے میں عام طور پر مبتلا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک نیکوکار مسلمان رمضان کی ایمان پر و فضائی بدولت برائی کے بہت سے امکانات سے بچ جاتا ہے اور اس طرح جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔

تیسرا بات یہ فرمائی کہ ”شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔“

ان الفاظ کا مدعایہ ہے کہ رمضان المبارک وہ زمانہ ہے جس میں نیکیاں فروغ پاتی ہیں اور شیاطین کی کار فرمائی رُک جاتی ہے چونکہ تمام مسلمان بیک وقت روزہ رکھتے ہیں اور ایک ایک آدمی الگ الگ روزہ نہیں رکھتا اس لیے بیک وقت روزہ رکھنے سے پوری قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آدمی کے اندر رجوع الی اللہ کی ایک مسلسل کیفیت جاری و ساری رہتی ہے کیونکہ جو آدمی بارہ چودھ گھنٹے روزے سے ہوتا ہے اسے گویا ہر وقت یہ یاد ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میں نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب اسے پیاس لگے گی تو وہ پانی نہیں پی گا کیونکہ اسے یاد ہو گا کہ وہ روزے سے ہے جب اسے بھوک لگے گی اور کھانے کی خواہش ہو گی تو اسے یاد ہو گا کہ وہ روزے سے ہے اس لیے کھانے سے مختسب رہے گا۔ اس طرح رمضان کے پورے مہینے میں آدمی کا رجوع مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے۔۔۔۔۔ وہ افطار کرتا ہے تو گویا خود محسوس کرتا ہے کہ یہاں تک تو میرے رب نے مجھے باندھ رکھا تھا، اب اس نے مجھے اجازت دے دی ہے تو روزہ افطار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کھانا کھایا تو پھر تراویح کے لیے چلا گیا، جس سے پھر رجوع الی اللہ کی نوبت آتی۔ اس طرح مسلسل چوبیں گھنٹے اللہ کی طرف اس کا رجوع رہا۔۔۔۔ اور پھر یہ رجوع ایک آدمی کا نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم کا ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رمضان نیکی کا موسم ہے۔

جس طرح بارش کا ایک موسم ہوتا ہے اور اس میں ہر چیز نشوونما پاتی ہے اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم ہے اور اس میں نیکیوں کی ترقی کے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ آدمی جس قدر روحانی ترقی کرنا چاہے کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ہر آدمی کی نیکی دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہر آدمی دوسرے کے روزے میں مددگار ہوتا ہے۔ عام دنوں میں روزہ رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ اس میں کتنی شدت پائی جاتی ہے کیونکہ کوئی آدمی بھی روزے میں دوسرے کا مددگار نہیں ہوتا لیکن رمضان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی کیونکہ پورا معاشرہ ایک حالت میں ہوتا ہے۔ اس طرح ایک آدمی کو لاکھوں آدمیوں کے روزے سے مدد پہنچتی ہے اور اس کے تقویٰ اور نیکوکاری سے تقویت ملتی ہے مبہی وجہ ہے کہ رمضان میں انسان کی روحانی ترقی اور سیرت و کردار کی اصلاح و تعمیر کے بے شمار مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اب بھی اس بگڑے ہوئے ماحول میں اگر کوئی شخص رمضان کے زمانے میں گالم گلوچ کر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں ”میاں رمضان میں یہ حرکت کر رہے ہو؟“ اس کے معنی یہ ہیں کہ معاشرے کو اب تک اس بات کا احساس ہے کہ رمضان کا احترام کیا معنی رکھتا ہے اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صدر اول میں کیا کچھ کیفیت ہو گی۔

اسی بنابر فرمایا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن یہ امر بہر حال ملحوظ رہنا چاہیے کہ یہ بات ایک مسلم معاشرے کے صالح ماحول کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ ورنہ

اسی زمانے میں اگر کوئی شخص شرک اور دوسرا گناہوں کا مرتكب ہو تو اس کے لیے دوزخ کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔

### جنت کا ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہو گا:

(2) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَهَنَّمِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ۔ (متفق عليه)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے کو، "ریان" کہتے ہیں۔ اس دروازے سے (جنت میں) صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ (متفق عليه) ریان کا لفظ ریان سے مانوڑ ہے جس کے معنی ہیں سیراب کرنا، آپاشی کرنا، ریان سے مراد وہ دروازہ ہے جو سیراب کرنے والا ہے۔

جنت کے دروازوں سے مراد وہ بڑی نمایاں نیکیاں ہیں جن کے ذریعے سے آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی فیاضی، سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ میں بڑھا ہوا ہے۔ وہ نیکی کے دوسرا کام بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن اس کی نمایاں نیکی جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہے انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ چنانچہ یہ انفاق فی سبیل اللہ دراصل جنت کا ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو گا۔ پھر مثلاً ایک اور شخص ایسا ہے کہ اس کے اعمال میں نمایاں نیکی جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو وہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے دروازے سے جنت میں داخل ہو گا۔ اس طرح مختلف آدمیوں کے جو نمایاں اوصاف ہیں ان کے لحاظ سے ان کی حیثیت مشخص ہوتی ہے اور انہی کے لحاظ سے جنت کے وہ دروازے ہیں جن سے وہ اس میں داخل ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیاں تو دنیا میں بے شمار ہیں لیکن اگر ان نیکیوں کو تقسیم کریں تو وہ آٹھ بابوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ ان آٹھ بابوں میں سے جس باب سے کوئی شخص زیادہ مناسبت رکھتا ہو گا اسی کے راستے سے وہ جنت میں داخل ہو گا۔

یہ جو فرمایا کہ ان میں سے ایک دروازہ ریان (یعنی سیراب کرنے والا) ہے اور اس سے جنت میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ویسے تو روزہ سارے مسلمان رکھیں گے لیکن جن لوگوں نے کثرت سے روزے رکھے، ان کا پورا پورا حق ادا کیا اور یہی بات پیش نظر رکھی کہ وہ روزے رکھ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ روزہ ان کے لیے مخصوص ہو گا۔

### تمام گزشتہ گناہوں کی بخشش کا زمانہ:

(3) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِّهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِّهِ، وَمَنْ قَامَ لِيَلَّةَ الْقُدرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِّهِ۔ (متفق عليه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے وہ سب گناہ معاف کردیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں گے۔ اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا (یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی) ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو معاف کردیے جائیں گے اس کے وہ قصور جو اس نے پہلے کئے ہوں گے۔ اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ تو معاف کردیے جائیں گے اس کے وہ سب گناہ جو اس نے پہلے کیے ہوں گے۔ (متفق عليه)

إحتساب اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنی تمام نیک اعمال پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اجر کا امیدوار ہو اور خالصتاً اسی کی رضا جوئی کے لیے کام کرے۔

اس حدیث میں گناہوں سے معافی کی جو خوشخبری سنائی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے اور آخرت کی بازپرس سے بے خوف ہیں ان کو اس بات کا لائننس دیا جا رہا ہے کہ میاں رمضان کے روزے رکھ لو، تراویح پڑھو لو اور لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر عبادت کرلو، تو پچھلا حساب صاف اور آگے پھر گیارہ مینے تمھیں جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو۔ رشو تین کھاؤ، لوگوں کے حق مارو، جو ظلم و ستم چاہو کرو، رمضان میں آکے پھر عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا، روزے رکھ لینا اور نمازیں پڑھ لینا اور پھر یہیلے کا کمپا ہوا سب معاف ہو جائے گا۔

اس طرح کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے مخاطب کون لوگ ہیں۔ جیسا کہ پہلے وضاحت کی جا چکی ہے، ان کے مخاطب وہ صلحاء اور ارہیں جو اپنی زندگیاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان سے اگر کوئی لغزش یا گناہ سرزد ہو جاتا تھا تو اس کی نوعیت ایسی ہر گز نہیں ہوتی تھی کہ جیسے ایک آدمی پوری ڈھنائی اور بے شرمی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس پر ڈھنار ہے، بلکہ وہاں صورت اس سے یکسر مختلف تھی۔ ان راستباز لوگوں سے اگر کوئی قصور سرزد ہو جائے اور وہ اس کے بعد نیکی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کو اپنا شعار بنائے رکھے تو وہ بجائے خود ایک توبہ ہے۔۔۔۔۔ توبہ کی ایک صورت توبہ یہ ہے کہ ایک آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس نے اس سے توبہ کر لی تو یہ بات بھی گناہ کی معافی کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی سے قصور سرزد ہوا اور پھر وہ دوسرے کاموں میں ایسا مشغول ہوا کہ توبہ کرنا بھول گیا تو اس کے بعد اس نے جو نماز پڑھی وہ نماز اس کے لیے پہلے کی لغزش کو اس کے حساب سے صاف کر دے گی۔ اسی طرح اگر اس نے روزہ رکھا تو وہ بھی اس کے گناہ کو صاف کر دے گا۔ دراصل توبہ اسی چیز کا نام تو ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں ایک قصور کا مرکتب ہوا تھا لیکن اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آیا۔ جیسے ایک نوکرا اگر اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اپنے مالک کی اطاعت سے نکل جائے لیکن پھر معافی مانگ لے اور خدمت پر حاضر ہو جائے تو اس سے ایک دفعہ قصور سرزد ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالک اُسے ہمیشہ کے لیے اپنی نوکری سے نکال دے گا بلکہ جس وقت وہ آکر معافی مانگتا ہے اور پہلے کی طرح خدمت کرنے لگتا ہے تو ماںک اس سے در گزر کرے گا اور اس کی گزشتہ و فادری کی وجہ سے اس پر پہلے کی طرح مہربان ہو جائے گا۔

ایسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ بندہ اگر بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے اور جان بوجھ کراس کے مقابلے میں اسکلتبر اور سرکشی کرنے والا نہیں ہے تو اگر اس سے کسی وقت کوئی قصور سرزد ہو جاتا ہے اور اس قصور کے بعد وہ بھر خدا کے دربار میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مغفرت سے محروم نہیں رکھے گا کیونکہ اس کا طرز عمل یہ بتایا ہے کہ وہ ٹھوکر تو کھا گیا تھا لیکن اپنے رب سے بھاگ نہیں تھا، اس کا باغی نہیں ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ اسی بنابر فرمایا گیا کہ اگر ایک شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے پچھلے قصور معاف ہو گئے۔ رمضان میں راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی تو وہ بھی پچھلے قصوروں کی معافی کا ذریعہ بن گئی۔ اسی طرح اگر وہ لیلیۃ القدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کا یہ عمل بھی اس کے پچھلے قصور کی معافی کا سبب بن گیا۔

## روزے کے اجر کی کوئی حد نہیں:

(4) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ عَمَلٍ إِبْنَ آدَمَ يُضَاعِفُ ؛ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمَائَةٍ ضَعْفٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :- إِلَّا الصَّوْمُ ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْرِيُ بِهِ ؛ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَغْافَةَ مِنْ أَجْلِي ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ؛ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ ، وَلَحُلُوفُ فِيمَا الصَّائِمُ أَطْبَيْتُعِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، وَالصَّوْمُ جُنَاحٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحْدِدُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَضْحَبُ ؛ فَإِنْ سَبَابَةَ أَحَدٍ أَوْ قَاتِلَةَ ؛ فَكَيْلُونَ : إِنِّي أَمْرُؤٌ صَائِمٌ؟" (متفق عليه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گناہ بڑھایا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک نیکی دس گنی تک اور دس گنی سے سات سو گنی تک بڑھائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار اپنی شہواتِ نفس اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔۔۔۔۔ روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں۔ ایک فرحت افطار کے وقت کی اور دوسرا فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔۔۔۔۔ اور روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوبی سے زیادہ پسند ہے۔۔۔۔۔ اور روزے ڈھال ہیں، پس جب کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ اس میں بد کلامی کرے اور نہ دنگا فساد کرے۔۔۔۔۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑے تو وہ اس سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔" (متفق علیہ)

یہ جو فرمایا کہ دوسرا نیکیاں تو دس گنی سے لے کر سات سو گنی تک بڑھائی جاتی ہیں لیکن روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا نیکیاں اللہ کے لیے نہیں ہیں اور اللہ ان کی جزا نہیں دے گا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق روزہ اس کے لیے خاص ہے اور وہ اس کی جتنی چاہے گا جزا دے گا۔ جب یہ فرمایا کہ دوسرا نیکیاں سات سو گنی تک بڑھائی جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں استثناء کے ساتھ روزے کے متعلق فرمایا کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ روزے کے اجر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے گا روزہ دار کو اس کا اجر دے گا۔

## روزے کی یہ غیر معمولی فضیلت کیوں؟

بات دراصل یہ ہے کہ دوسرا تمام نیکیاں آدمی کسی نہ کسی ظاہری فعل سے انجام دیتا ہے۔ مثلاً نماز ایک ظاہری فعل ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے، اس طرح یہ ایک نظر آنے والی عبادت ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح حج اور زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے بر عکس روزہ کسی ظاہری فعل سے ادا نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک ایسا مخفی فعل ہے جو فقط آدمی اور اس کے خدا کے درمیان ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ روزہ دراصل اللہ کے حکم کی تعلیم کی ایک منفی شکل ہے۔ مثلاً ان کھانا اور نہ بینا اور اسی طرح جن دوسرا چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہنا۔ اس منفی فعل کو یا تو آدمی خود جان سکتا ہے یا اس کارب، کسی تیر سے کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ منفی فعل اس نے کیا ہے یا نہیں۔ مثلاً اگر ایک آدمی چھپ کر کھاپی لے تو کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ روزہ نہ رکھتے ہوئے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور کوئی شخص یقین کے ساتھ یہ نہیں جان سکتا کہ آیا وہ روزے سے ہے یا نہیں۔ اگر وہ روزے سے ہے تو اس بات کو صرف وہ جانتا ہے اور اگر روزے سے نہیں تو اس کو بھی اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی وجہ سے روزے کا معاملہ صرف خدا اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے اور اسی بنابر اس میں ریا کا امکان نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ ایک آدمی دنیا کو دکھانے کے

لیے بے شک یہ کہتا پھرے کہ میں روزے سے ہوں لیکن حقیقتِ صوم کے اندر اسی ریا کاری کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ وہ خدا کو دھوکا نہیں دے سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ خاص میرے ہی لیے ہے، وَ آنَا أَجْزِيُّ بِهِ میں ہی اس کی جزا دوں گا۔

مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی بے حد و حساب جزادے گا۔ جتنے گھرے جذبے اور اخلاص کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا جتنا تقویٰ اختیار کریں گے، روزے سے جتنے کچھ روحانی و دینی فوائد حاصل کریں گے اور پھر بعد کے دنوں میں بھی ان فوائد کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جزا بڑھتی چلی جائے گی۔۔۔۔۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کی اس غیر معمولی فضیلت اور مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ روزہ دار اپنی شہواتِ نفس اور کھانے پینے کو صرف اللہ ہی کی خاطر چھوڑتا ہے، اس لیے وہ بھی اسے آخرت میں بے حد و حساب آجر سے نوازے گا۔

### روزہ دار کے لیے دو فرحتیں:

فرمایا: کہ روزہ رکھنے والے کے لیے دو فرحتیں ہیں۔ ایک فرحت افطار کے وقت کی، اور دوسرا اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ مراد یہ ہے کہ جو فرحت ایک روزہ دار کو افطار کے وقت ملتی ہے وہ افطار پر ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس سے زیادہ فرحت اُسے اُس وقت حاصل ہو گی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور وہاں اس کو معلوم ہو گا کہ جو عمل وہ دنیا میں کر کے آیا ہے اس کی بیہاں کتنی بڑی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کس قدر قرب سے نوازا ہے اور اس کی کتنی خوشنودی اسے حاصل ہوئی ہے۔

فرمایا: روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوبی سے زیادہ پسند ہے۔ ”کوئی شخص اپنے منہ کو چاہے کتنا ہی صاف رکھنے والا اور دانتوں کی صفائی کرنے والا ہو۔ لیکن کئی کئی گھنٹوں تک کھانے پینے سے ڈکے رہنے کی وجہ سے اس کے منہ میں اس طرح کی بساند محسوس ہو تو اس سے نفرت نہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوبی سے بھی زیادہ پسند ہے۔

### روزہ۔۔۔۔۔ برائیوں کے مقابلے میں آدمی کی ڈھال:

فرمایا کہ روزے ڈھال ہیں، پس جب کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں نہ بد کلامی کرے، نہ دنگا فساد۔ روزہ کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کا رزیر حیات میں انسان کو برائیوں سے بچانے والی ڈھال ہے۔ جس طرح دشمن کا وار ڈھال پر روکا جاتا ہے اُسی طرح برائی کا کوئی موقع پیدا ہونے پر اگر ایک شخص یہ خیال کر کے وہ روزے سے ہے اس برائی سے نجات ہاتا ہے تو اس کا روزہ اس کے لیے برائی کے مقابلے میں ڈھال کے بمزرلہ ہے۔

اس ڈھال کی مدد کرنے اور اس کو مضبوط بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود بد کلامی نہ کرے، خود کسی کو برانہ کہے اور خود کسی سے نہ لڑے۔ یہ ڈھال کی پہلی مدد ہے۔ اس کی دوسرا مدد یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص لڑنے کو آئے تو روزے سے کہے کہ بابا میں تو روزے سے ہوں۔ اگر تم گالی دو گے تو میں نہیں دوں گا۔ اس کے بعد یہ ڈھال اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ہر برائی سے بچا سکتی ہے۔

اگر ایک آدمی نے لوگوں سے خود جھکڑا کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اُس نے اپنی اس ڈھال میں خود شکاف پیدا کر لیا جو اس کو برائی سے بچانے والی تھی۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس سے لڑنے کو آیا اور یہ بھی آستینیں چڑھا کر کھڑا ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اُس نے وہ ڈھال خود

تو ڈھال کر سچیک دی۔ اب ایک وارہ کرے گا اور دوسرا واریہ کرے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی اپنے روزے کی اس ڈھال سے کام لے تو یہ ڈھال یقیناً سے برا یوں سے بچائے گی۔

## الفصل الثاني

### جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ:

(5) عن أبي هريرة قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفَدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلَّتِ أَبْوَابُ النَّارِ فَمَمْ يُفْتَحُ مِنْهَا بَابٌ وَفُتُحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَمَمْ يُعْنَقُ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِي الْخَيْرِ أَقْبِلَ وَيَا بَاغِي الشَّرِّ أَقْصَرْ وَلَلَّهُ عُنْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ۔ (رواه الترمذی و ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور وہ جن جو برائی پھیلانے پر کمرستہ رہتے ہیں باندھ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھائی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رُک جا۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ ہیں جو آگ سے بچنے والے ہیں۔ اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے۔ ” (ترمذی ابن ماجہ)

چونکہ اسلامی تقویم کا انحصار قمری مہینوں پر ہے اور قمری مہینے ہلال سے شروع ہوتے ہیں اس لیے اسلام میں ہر مہینے کا آغاز رات سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان ہلال دیکھنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر یہاں رمضان کی پہلی رات کے متعلق فرمایا گیا کہ ان میں شیاطین اور برائی اور فساد پھیلانے والے جن باندھ دیے جاتے ہیں۔

رمضان کی اس خصوصیت کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس کا ظہور ساری دنیا میں نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف مومنین صالحین کی بستیوں کے اندر ہوتا ہے۔

### شیطان کیوں نکر جکڑا جاتا ہے؟

رمضان کی آمد پر شیاطین کا باندھا جانا دراصل اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مومن صالح رمضان کا آغاز ہوتے ہی اپنی خواہشات نفس پر وہ پابندیاں قبول کرتا ہے جو عام زمانے میں اس پر نہیں ہوتیں۔ مثلاً عام زمانے میں تو پانی اس کے لیے حلال ہے لیکن رمضان کے زمانے میں بارہ سے چودہ پندرہ گھنٹے تک وہ اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں اس کے لیے کھانا کھانا اور خواہش نفسی کو پورا کرنا بشرطیکہ جائز طریقہ سے ہو، حلال ہے۔ لیکن رمضان کے زمانے میں یہ چیزیں کئی کئی گھنٹے کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک مومن پر رمضان کے مہینے میں اس کے نفس، اس کی خواہشات اور آزادی عمل پر ایسی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتیں۔ جب مومن ان پابندیوں کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ان میں جکڑ لیتا ہے تو اس کا شیطان بھی جکڑا جاتا ہے۔ اگر مومن بھی اپنے آپ کو خواہش نفس کا غلام بنائے رکھے اور شریعت کی پابندیاں قبول نہ کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا شیطان جکڑا نہیں گیا بلکہ بد ستور کھلا پھر رہا ہے اور اپنا کام کئے جا رہا ہے۔ پس خوب سمجھ لیجیے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر شریعت کی پابندیاں عائد کر لیں تو جس لمحے اس نے ایسا

کیا اُسی لمحے اس کا شیطان بھی زنجروں میں جکڑا گیا۔ اسی طرح ادھر اُس نے اپنے اوپر شریعت کی پابندیاں عائد کیں اور ادھر جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھل گئے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے۔۔۔ یہ ہے مفہوم شیطانوں کے جکڑے جانے کا، دوزخ کے دروازے بند ہے ہونے اور جنت کے دروازے کھلنے کا۔ اور یہ چیزیں وہیں ظہور پذیر ہوں گی جہاں مومنین صالحین بستے ہوں۔ اس سے یہ مراد نہیں لی جاسکتی کہ ساری دنیا کے شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ اور آج کل تو شیاطین خود مسلمانوں کی بستیوں کے اندر بھی اس زمانے میں کھلے پھرتے ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہوئے رمضان کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کا شیطان تو نہ صرف یہ کہ کھلا پھر رہا ہے بلکہ ان پر پوری طرح سے تسلط جمائے ہوئے ہے۔۔۔ مقید تو صرف اُس شخص کا شیطان ہو گا جس نے اپنی خواہشاتِ نفس پر پابندیاں عائد کیں اور اللہ کے احکام کو خود پر نافذ کیا۔

### رمضان کی پکار:

پھر فرمایا کہ پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کے طالب رُک جا! پکارنے والے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ صد الگاتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنے والوں کو رمضان کی آمد ہی سے اس بات کی اطلاع مل جاتی ہے کہ نیکیاں کرنے اور بائیوں سے بچنے کا زمانہ آگیا ہے۔ جس وقت اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ لیا گیا ہے تو یہ اعلان اپنے اندر اس بات کو متنفس رکھتا ہے کہ اے بھلائی کے طالب، آگے بڑھ، یہ وقت ہے بھلائیاں لوٹ لے جانے کا۔ وہ زمانہ شروع ہو گیا ہے جس میں تو بھلائیوں سے اپنی جھوٹی بھر سکتا ہے۔۔۔ اور اے برائی کے طالب! رُک جا، یہ وقت ہے تیرے رُک جانے کا، کیونکہ وہ زمانہ شروع ہو گیا ہے جس میں تیری ایک معمولی سی برائی بہت بڑی برائی قرار پائے گی اور اس کے بر عکس تیری ایک معمولی سی بھلائی بھی بے انتہا نشوونما پائے گی، اس لیے اب تو تجھے برائیوں سے رُک ہی جانا چاہیے!

### آگ سے چھڑ کاراپانے والے:

پھر فرمایا کہ رمضان کے زمانے میں اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو آگ سے آزادی حاصل کرتے ہیں۔ عتیق کے معنی ہیں آزاد آدمی کے۔ اس ارشاد سے مراد یہ ہے کہ بہت سے بندے ایسے ہیں جو اس زمانے میں اپنے نیک اعمال کی بدولت جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا شمار ان بندوں میں کرانے کا سامان کہاں تک کر رہا ہے۔

### اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے:

اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو برکتیں اور خصوصیات اس کی پہلی رات کو ظہور میں آتی ہیں اُن سب کا ظہور رمضان کی ہر رات میں بدستور جاری رہتی ہے۔

## الفصل الثالث

### ہزار ہمینوں سے بہتر رات:

(6) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَأْكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامٌ، ثُمَّتُخْ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُنَعَّلُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحَمِ، وَتُثْلَلُ فِيهِ مَرْدَدُ الشَّيَاطِينِ، يَلَوْهُ فِيهِ لَيَلَةً خَيْرٌ مِنْ الْأَلْفِ شَهْرٍ مِنْ حُرَمَ حَيْرَهَا فَقْدٌ حُرَمٌ۔ (رواہ احمد والنسائی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان (یعنی جنت) کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی طرف سے ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ بس محروم ہی رہ گیا۔ (احمد نسائی)

یہ حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطبات میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس مبارک مہینے کی اہمیت اور برکات سے آگاہ فرمانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ بتائی کہ رمضان بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے اور اس کے روزے امت پر فرض کیے گئے ہیں۔

برَكَتُ کے اصل معنی ہیں افزاں کے۔ رمضان کے مہینے کو مبارک مہینہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر بھلائیاں نشوونما پاتی ہیں اور تیکیوں کو افسروں نصیب ہوتی ہے اس کے بر عکس برائیاں بڑھنے کے بجائے سکڑتی چلی جاتی ہیں اور ان کی ترقی رُک جاتی ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی: اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔

اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ یعنی وہ رات جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:

إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقُدْرِ [1] وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقُدْرِ [2] لَيْلَةُ الْقُدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ [3]

”ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔“ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول انسانیت کے لیے عظیم الشان خیر کی حیثیت رکھتا ہے اور انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وہ رات جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے لفظوں میں پوری انسانی تاریخ میں کبھی ہزار مہینوں میں بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا ہے جو اس ایک رات میں ہوا ہے۔ ہزار مہینوں کے لفظ کو گنے ہوئے ہزار نہ سمجھنا چاہیے بلکہ اس سے بہت بڑی کثرت مراد ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ اس رات میں، جو اپنی بھلائی کے لحاظ سے ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس سے لوگائی اس نے بہت بڑی بھلائی حاصل کر لی۔۔۔۔۔ کیونکہ اس رات میں بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہی معنی تور رکھتا ہے کہ اس رات کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر یہ کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا کلام نازل فرمایا۔ اس لیے جس آدمی نے اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اس کے دل میں قرآن مجید کی صحیح قدر و قیمت کا احساس موجود ہے۔

### جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ محروم ہی رہ گیا:

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو گویا اسے قرآن مجید کی اُس نعمتِ عظیمی کا احساس ہی نہیں ہے جو اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی۔ اگر اس بات کا احساس ہوتا تو وہ ضرور رات کے وقت عبادت کے لیے کھڑا ہوتا اور شکر ادا کرتا کہ اے اللہ یہ تیر احسان عظیم ہے کہ تو نے مجھے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ بے شک یہ بھی تیر احسان ہے کہ تو نے مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہنچنے کے لیے لباس عنایت فرمایا۔ لیکن تیر اصل احسان عظیم مجھ پر یہ ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دی اور دین حق کی روشنی دکھائی۔ مجھے تاریکیوں میں بھکلنے سے بچایا اور علم حقیقت کی وہ روشن شمع عطا کی جس کی وجہ سے میں دنیا میں سیدھے

راستے پر چل کر اس قابل ہوا کہ تیری خوشندی حاصل کر سکوں۔۔۔۔۔ پس جس شخص کو اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہو گا وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس کی بھلائی لوٹ لے جائے گا۔ لیکن جو شخص اس رات میں ادائے شکر کے لیے خدا کے حضور کھڑا نہیں ہوا وہ اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا اور در حقیقت ایک بہت بڑی بھلائی سے محروم رہ گیا۔

### روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے:

(7) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصَّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعُانِ لِلْعَبْدِ ، يَقُولُ الصَّيَامُ أَئِ رَبِّ إِنِّي مَعَنِّهُ الطَّعَامُ وَالشَّهَوَاتِ بِالْتَّهَارِ فَشَفَعَنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَعَنِّهُ النَّقْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعَنِي فِيهِ فَيَشَفَعَانِ - (رواہ البیہقی)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے کہ اے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے (پینے) اور شہوات سے روکے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرماء۔۔۔۔۔ اور قرآن کہتا ہے کہ (اے رب) میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرماء۔۔۔۔۔ پس دونوں کی سفارش قبول فرمائی جائے گی۔ (بیہقی)

اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ اور قرآن کوئی جاندار ہیں جو کھڑا ہو کر یہ بات کہتے ہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک روزہ دار کار روزہ رکھنا اور قرآن پڑھنے والے کا قرآن پڑھنا اور اصل خود اپنے اندر ایک شفاعت رکھتا ہے اور وہ شفاعت یہ ہے کہ اس بندے نے دن بھر کے روزے سے تکا ماندہ ہونے کے باوجود آپ کی رضا جوئی کی خاطر رات کو (نماز میں) کھڑے ہو کر قرآن پڑھا اس لیے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔۔۔۔۔

ظاہر بات ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز مومنین صالحین کی شفاعت فرمائیں گے اسی طرح خود آدمی کے اپنے اعمال بھی اس کے حق میں شفیق ہوتے ہیں۔ آدمی کے اعمال خدا کے حضور یہ شفاعت کرتے ہیں کہ یہ آدمی، یہ نیکیاں کر کے آیا ہے اس لیے اسے بخش دیجیے اور اس سے در گزر فرمائیے۔

۔۔۔۔۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حق میں روزے اور قرآن مجید کی یہ شفاعتیں قبول فرمایتا ہے۔

### لیلۃ القدر سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے:

(8) عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَسْرَمْ وَفِيهِ لَيْلَةُ حَيْثُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مِنْ حَرَمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَلَا يُحِرِّمُ حَيْرُهَا إِلَّا مَحْرُومٌ - (رواہ ابن ماجہ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ مہینہ تمہارے اوپر آیا ہے اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو اس سے محروم رہ گیا وہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم وہی رہتا ہے جو ہے ہی بے نصیب۔ (ابن ماجہ)

اس مقام پر یہ بات سمجھ لین چاہیے کہ لیلۃ القدر کے متعلق یہ وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ وہ کونی رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے وہ بس یہ ہے کہ وہ رات رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ یعنی وہ رات ایکسوں ہو سکتی ہے باکیسوں نہیں،

تینیسوں ہو سکتی ہے چوبیسوں نہیں، وعلیٰ ہذا القیاس وہ آخری عشرہ کی طاق رات ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اس بات کو بغیر تعین کے چھوڑ دیا گیا کہ وہ کونسی رات ہے عام طور پر لوگ ستائیکیسوں رمضان کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیکن یہ بات قطعیت کے ساتھ نہیں کبھی جاسکتی کہ رمضان کی ستائیکیسوں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ البتہ جو بات تعین کے ساتھ کبھی جاسکتی ہے وہ فقط یہ ہے کہ وہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے۔

لیلیۃ القدر کا قطعی طور پر تعین نہ کرنے میں یہ حکمت کار فرما نظر آتی ہے کہ آدمی ہر طاق رات میں اس امید پر اللہ کے حضور کھڑا ہو کر عبادت کرے کہ شاید یہی لیلیۃ القدر ہو۔۔۔۔۔ لیلیۃ القدر اگر اس نے پالی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ جس چیز کا طالب تھا وہ اُسے مل گئی، اس کے بعد اس نے جو چند مزید راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں تو وہ اس کی نیکی میں مزید اضافے کی موجب بنتیں گی۔

اس مقام پر ایک اور بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ چونکہ ساری دنیا میں رمضان کی ایک ہی تاریخیں نہیں ہو سکیں اور ان میں روڈوبل ہوتا رہتا ہے اس لیے یہ بات یقین سے کہنا مشکل ہے کہ کس آدمی کو واقعی وہا صل رات میسر آگئی۔ اس لیے ایک طالب صادق کو ہر رمضان میں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ رمضان کا جو آخری عشرہ اعتکاف کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اعتکاف کا ثواب آدمی کو الگ ملے اور چونکہ اعتکاف کی حالت میں اس کی تمام طاقت راتیں عبادت میں گزریں گی اس لیے اس بات کی توقع کی جاسکتی ہے کہ اسے ان میں کبھی نہ کبھی وہ رات بھی لازماً حل جائے گی۔

بعض لوگ اپنی جگہ لیا۔ القدار کی تلاش کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو باہر نکل کر یہ دیکھا جائے کہ فضائیں کوئی ایسی علامت پائی جاتی ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ قدر کی رات ہے۔ فضائیں کوئی ایسا نور برس رہا ہے جس سے اس کا لیا۔ القدار ہونا ثابت ہو جائے۔ لیکن دراصل یہ طرزِ فکر مطابق حقیقت نہیں ہے۔ بے شک یہ نور برستا ہے، لیکن یہ نور تو پورے رمضان میں اور رمضان کی ہر رات میں رہتا ہے، البتہ اس کے لیے وہ آنکھیں چاہئیں جو اس کو دیکھ سکیں۔ یہ نور در حقیقت آپ کی عبادات کے اندر برستا ہے۔ یہ نور تقویٰ اور خدا کی رضا طلبی کے اندر آپ کے انہاں میں بھلا کیوں کے لیے آپ کے ذوق و شوق میں، اور عبادات کے لیے آپ کے خلوص و اہتمام میں اور فی الجملہ آپ کے اپک اپک فعل میں برستا ہے۔

## رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ:

(٩) عن سلمان الفارسي، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: "يا أئمّة النّاس قد أطّلُكُمْ شهراً عظيماً، شهر مبارك، شهر فيه ليلة حيّر من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله سطوعاً، من تقرّب فيه بخصلة من الحِير كأنّ كمن أدى فريضة فيه كأنّ كمن سبعين فريضة فيها سواه، وهو شهر الصّبر، والصّبر توبة الجنّة، وشهر المُواساة، وشهر يزيد في رزق المؤمنين، من فطر فيه صائمًا كأنّ له مغفرة لذنبه، وعشق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجراه شيء" فلما: يا رسول الله، ليس كلّنا يجد ما ينطر الصائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يعطي الله هذا الشّواب من فطر صائمًا على مدقّة ابن أو ثمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائمًا سقاة الله من حوضي شربة لا يطمح حتى يدخل الجنّة، وهو شهر أهل رحمة، وأوسعه مغفرة، وأحرّه عشق من النار من حفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعنته من النار". (رواه البيهقي)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو! تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سا یہ فگن ہوا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات (ایسی ہے

کہ) ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے (اس کے) روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع (یعنی) قرار دیا ہے جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کے ماند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا (یعنی اسے ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے) اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے ستر فرض ادا کیے۔ اور رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کارزق بڑھایا جاتا ہے اگر کوئی شخص اس میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے اور اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس روزہ دار کے لیے روزہ رکھنے کا ہے، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ہم نے (یعنی صحابہ کرام نے) عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق میر نہیں ہے کہ کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو (بھی) دے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ کی لشی سے روزہ کھلوادے یا ایک کھجور کھلا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلاۓ گا (اس حوض سے پانی پی کر) پھر اسے پیاس محسوس نہ ہو گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں مغفرت ہے اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔ اور جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے غلام سے بلکی خدمت لی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ (نبیق)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے (اور پہلے بھی یہ بات بیان کی جا چکی ہے) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل رمضان اور روزوں سے متعلق ہدایات بالعموم رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے جمیع یادوں یادوں سے اجتماعات میں دی ہیں۔ رمضان کے زمانے میں جو خطبے حضور دیتے تھے اگرچہ ان میں بھی احکام کا بیان ہوتا تھا لیکن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ایسے خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے جن میں رمضان کی فضیلت اور روزوں کے احکام کا بیان ہوتا تھا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں فرمایا:

”لوگو! تمہارے اوپر ایک مہینہ ایسا آرہا ہے جو عظیم ہے، یعنی بزرگ والا اور بڑی برکت والا ہے۔“

۔۔۔۔۔ ماہِ رمضان کے بزرگ یا برا برکت ہونے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس کے دنوں، گھنٹوں یا منٹوں میں فی نفسہ کوئی ایسی برکت شامل ہے جو لوگوں کو خود بخود حاصل ہو جاتی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے موقع پیدا کر دیتا ہے جن کی بدولت تم اس کی بے حد و حساب برکات سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس مہینے میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ عبادت کرے گا اور نیکیوں کے جتنے زیادہ کام کرے گا وہ سب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ روحانی ترقی کا وسیلہ بنیں گے۔ اس لیے اس مہینے کے بزرگ اور با برکت ہونے کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے برکتیں سسیٹنے کے بے شمار مواقع فراہم کر دیے گئے ہیں۔

”یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔“

اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس کے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی ہزار مہینے میں بھی نوعِ انسانی کی ک فلاح کا وہ کام نہ ہوا ہو گا جتنا اس ایک رات میں ہوا۔

”اللہ تعالیٰ نے رمضان کے (دنوں کے) روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کے قیام کو تطوع (یعنی نفل) قرار دیا ہے۔“

----تطوع سے مراد وہ کام ہے جو آدمی اپنے دل کی خوشی سے (Voluniuril) انجام دے، بغیر اس کے کہ وہ اس پر فرض کیا گیا ہو۔

رمضان میں دن کے روزے کو فرض اور رات کے قیام کو نفل عبادات دنوں کے فائدوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ادائے فرض کے فائدہ ہے کچھ اور ہیں اور از خود اپنی رضاور غبت سے، بغیر اس کے کوئی چیز لازم قرار دی گئی ہو۔ اللہ کی عبادت کرنے کے فائدے کچھ اور ہیں۔ اگر ایک آدمی اپنی ڈیلوٹی بجالاتا ہے تو وہ اس پر ایک اور قسم کے انعام کا مستحق ہوتا ہے اور اگر وہ اپنی ڈیلوٹی سے بڑھ کر اپنے دل کی رضا سے کوئی خدمت بجالاتا ہے تو اس پر کسی اور قسم کے انعام کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک چیز وہ ہے جس پر وہ مزدوری کا مستحق ہے اور دوسری چیز وہ ہے جس پر اسے بونس (Bonus) کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس ماہ میں دو قسم کے موقع پیدا کر دیے گئے ہیں۔ ایک تو ڈیلوٹی عائد کردی گئی ہے جس کے آجر کے آپ الگ مستحق ہوں گے اور ایک چیز آپ کے تطوع پر چھوڑ دی گئی ہے کہ آپ اپنی رضاور غبت سے راتوں کو عبادات کے لیے کھڑے ہوں تو اس پر آپ کو مزید انعامات ملیں گے۔ یہ گویا اس چیز کی تشرط ہے کہ اس بزرگ مہینے میں کیا کیا برکتیں رکھ دی گئی ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: ”جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کو ایسا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے دنوں میں اس نے ستر فرض ادا کیے۔“

چونکہ یہاں فریضتے کے مقابلے میں حَصْلَةُ مِنَ الْخَيْرِ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس لیے ان سے خود بخود یہ معنی نکلتے ہیں کہ ان سے مراد نفل نیکی ہے۔ یعنی جو آدمی اس مہینے میں نفل کے طور پر کوئی نیکی کرتا ہے اسے اس پر ایسا اجر ملے گا جیسا دوسرے زمانے میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔

### رمضان کے زمانے میں یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟

رمضان کے زمانے میں عام دنوں کی بہ نسبت اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عام دنوں میں تو آدمی بڑی حد تک یا ایک حد تک انفرادی حیثیت سے عبادات و فرائض کی بجا آوری کرتا ہے لیکن رمضان کا زمانہ وہ ہے جسے بحیثیت مجموعی پوری قوم کے لیے نیکی کا موسم قرار دیا گیا ہے۔ ساری قوم بیک وقت روزہ رکھتی اور افطار کرتی ہے۔ سب ایک ہی وقت میں جا کر تراویح پڑھتے اور دوسری عبادات انجام دیتے ہیں۔ اس طرح پوری قوم کے اندر نیکی کا ایک عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں نیکی خوب پھلتی پھولتی ہے۔ بالکل اُسی طرح جس طرح بارش کے زمانے میں فصل عام زمانے کی بہ نسبت خوب بڑھتی اور پھلتی پھولتی ہے۔ چنانچہ رمضان کے دنوں میں آدمی جو نیکی بھی کرتا ہے وہ اکیلے اُسی کی نیکی نہیں ہوتی بلکہ بے شمار نیکیاں مل کر اُس کو بڑھا رہی ہوتی ہیں۔ پھر چونکہ رمضان نیکیوں کا عام موسم ہے اس لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا فیضان بھی عام ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو نفل نماز بھی پڑھے، کسی کے ساتھ بجلائی کا جو کام بھی کرے، جو خیرات بھی کرے اُسے ان پر اتنا اجر ملے گا جتنا عام دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے زمانے

میں اگر کوئی شخص فرض ادا کرتا ہے، کواہ وہ زکوٰۃ ہو یا نماز یا روزہ، تو اسے اس کا اتنا جرم ملے گا جتنا اس کو عام دنوں میں ستر گناہ کا ہے تکانے، ستر نمازیں پڑھنے یا ستر روزے رکھنے کا ملتا ہے۔

۔۔۔۔۔ صَبْرُ کے معنی عربی لغت میں باندھنے اور روکنے کے ہیں۔ اس مقام پر صبر سے مراد ہے اپنے آپ کو اتنا باندھنا اور ایسا ضبط نفس کرنا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے اور اس کی اطاعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔

یہ جو ارشاد فرمایا کہ صبر ہی کا ثواب جنت ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جنت حاصل کرتا ہے تو اسی وجہ سے حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر اتنا قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہشاتِ نفس بے لگام نہیں ہونے پائیں اور وہ ان کو رضاۓ الٰہی کا پابند بنادیتا ہے۔

### اس صبر کی جتنی مشق رمضان میں ہوتی ہے اتنی اور کسی زمانے میں نہیں ہوتی:

رمضان میں آدمی مسلسل چوبیں گھننے صبر کی مشق کرتا ہے۔ سحری کا وقت اس کے اٹھنے کا نہیں ہوتا لیکن وہ اٹھتا ہے وہ وقت کھانے کا نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے نفس سے کہتا ہے کہ تیرے رب نے یہی وقت تیرے کھانے کے لیے مقرر کیا ہے، اس وقت کھانا ہے تو کھالے ورنہ دن بھر تجھے بھوکار ہنپڑے گا۔ گویا اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے نفس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ اس پر سوار ہوتے ہیں۔ (بجائے اس کے کہ یہ آپ پر سوار ہو) جس وقت اللہ کا حکم ہوابس اُسی وقت کھانایا بند ہو گیا۔ پھر آپ کا ہاتھ نہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے نہ پینے کی طرف۔ دن بھر آپ پر خواہ کچھ ہی کیوں نہ گزرے لیکن آپ اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیتے۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آپ فوراً افطار کرتے ہیں۔ آگے وہ احادیث آرہی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہایت پسند ہے کہ بندہ افطار میں جلدی کرے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ روزہ دار محض اللہ کے حکم کی وجہ سے رُکا ہوا تھا ورنہ اس کو ایسی بھوک بیاس لگی تھی کہ وہ کھانے اور پینے میں ایک لمحے کی دیر کرنے والا نہیں تھا۔

یہ ہے وہ طریقہ جس سے آپ کو اپنے نفس پر قابو پانے اور صبر کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے، اور یہی وہ صبر ہے جس کا نتیجہ جنت ہے کیونکہ اسی صبر کی بدولت تو آپ اس پر قادر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام وہدایات کی خلاف ورزی سے بچیں اور ہر حال میں اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا شعار بنائے رکھیں۔

پھر فرمایا کہ ”یہ مہینہ مواساة کا مہینہ ہے۔“

مواساة کے معنی ہیں باہم ہمدردی کرنا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا۔۔۔۔۔ رمضان کے شَهْرُ الْمُوَاسَةُ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد اور ہمدردی کرنے کی تربیت دی جاتی ہے کیونکہ ایک بھوک کے آدمی کو جب خود بھوک کا احساس ہوتا ہے تبھی اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے پر بھوک میں کیا گزرتی ہے اور وہ کس قسم کی ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے۔

”اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔“

۔۔۔۔۔ کوئی شخص ناپ تول کر یا حساب لگا کر تو یہ نہیں بتاسکتا کہ رمضان میں اس کی آمدنی کتنی بڑھی یا اس کی تخلوہ میں کیا اضافہ ہوا لیکن لاکھوں، کروڑوں مسلمانوں کا یہ تجربہ ہے کہ رمضان میں جیسا کچھ وہ کھاپی لیتے ہیں عام حالات میں وہ ان کو میسر نہیں آتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لازماً گوئی ایسی برکت ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں ڈال دیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جو شخص کسی کارروزہ کھلوانے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے اور اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ملے گا بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ ”

۔۔۔۔۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اتنا محدود نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کے اجر میں سے کاٹ کر افطار کرنے والے کو کچھ دے دے کہ یہ تیرے افطار کرنے کا اجر ہے نہیں بلکہ جتنا آجر روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی آجر اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس شخص کو دیتا ہے جو روزہ افطار کرتا ہے۔

یاد رہے کہ یہ آجر ان افطاروں کے لیے نہیں ہے جو بطور ریا کاری کے اپنی شان و شوکت کے مظاہرے کے لیے کرائی جاتی ہیں اور جن سے مقصود لوگوں کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ حضرت کتنے دولت مند ہیں اور راہ خدا میں کس قدر خرچ کرنے والے ہیں۔

۔۔۔۔۔ یہاں جس آجر کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی خاطر لوگوں کو افطار کرائیں اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو افطار کرائیں جو بہتر افطار کرنے کے قابل نہیں ہیں، بہ نسبت اس کے کہ کھاتے پیتے لوگوں کو افطار کرایا جائے۔

اوپر کی سطور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن ارشادات کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ روزہ دار کارروزہ کھلوانے۔

۔۔۔۔۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آجر توہر اس شخص کا ہے جو کسی روزہ دار کو دودھ یا لسی پلا دے یا ایک کھجور کھلا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ یعنی یہ آجر بڑی بھاری افطار یوں کا نہیں ہے بلکہ یہ تو محض روزہ کھلوا دینے کا اجر ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ کیس ہی سادہ طریقے سے کھلوا یا گیا ہو۔

پھر فرمایا: اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلادے اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلاۓ گا۔ پھر اسے اس وقت تک پیاس محسوس نہ ہو گی جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ”

احادیث میں آتا ہے کہ میدانِ حشر میں پانی کا ایک حوض ہو گجے حوض کو ثر کہا جاتا ہے۔ اس حوض کے محافظ اور نگران خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اس سے پانی وہی پیے گا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلانیں گے۔ کسی دوسرے شخص کو اس سے پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر اس حوض کے سوا میدانِ حشر میں کوئی دوسرا حوض بھی نہیں ہو گا جہاں سے کوئی شخص پانی پی سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر صرف انہی لوگوں کو آنے دیں گے جو اس قابل ہوں گے کہ آگے جا کر جنت میں داخل ہو سکیں چنانچہ جو شخص ایک روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اسے میدانِ حشر میں حوض کوثر سے پانی ملے گا تا آنکہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔

میدانِ حشر کے متعلق یہ بات بھی احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ وہاں کوئی سایہ اللہ کے سائے کے سوا نہیں ہو گا اور وہ سایہ صرف نیک آدمیوں کو میسر آئے گا۔ بدآدمیوں کے لیے وہ سایہ نہیں ہو گا۔ ۔۔۔۔۔ تصور کیجیے کہ اس میدانِ حشر میں جہاں اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہو گا۔ اس شخص کو برابر پانی ملتا رہے گا جو یہاں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانے کھلاتا ہے۔

پھر فرمایا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں رحمت ہے، وسط میں مغفرت ہے اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔ ”

یعنی ادھر اس مبارک مہینے کی آمد پر آپ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں اُدھر اللہ کی رحمت آپ پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ پھر رمضان کے وسط تک پہنچتے پہنچتے اللہ تعالیٰ آپ کے قصوروں سے در گزر فرمائتا ہے اور آپ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب آپ رمضان کے آخر تک پہنچتے ہیں تو ادھر آپ آخری روزہ رکھتے ہیں اُدھر آپ کو دوزخ کے خطرے سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔

اس آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آخری روزے کی وجہ سے آپ کو دوزخ سے آزادی حاصل ہو گئی تو اب آپ آزاد ہیں کہ جو جی چاہے کرتے پھریں، اب آپ پر کوئی گرفت نہیں ہو گی۔ ستم طریقی کی انتہا ہے کہ بعض لوگ رمضان کے ختم ہوتے ہی وہ سب پابندیاں توڑ دلتے ہیں جو اس مبارک مہینے میں انہوں نے اپنے اوپر عائد کر کھی ہوتی ہیں۔ بس رمضان ختم ہوا اور وہ عین عید کے دن (یعنی شوال کی پہلی ہی تاریخ کو) سینما دیکھنے چلے گئے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ناچ گانے کا شوق بھی کر لیا۔ پھر کہیں بیٹھ کر کچھ تھوڑا بہت جو اونچیرہ بھی کھیل لیا۔ یہ سب کچھ اگر ایک شخص نے کر ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر وہ دوزخ کے خطرے سے آزاد ہوا اور اُدھر اس میں کو دنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھلا آدمی جس کے دل میں ایمان کی کچھ روشنی اور خوف خدا کی کوئی رمق موجود ہو یہ کھیل نہیں کھیل سکتا۔

”اور جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے غلام (یا نوکر) سے ہلکی خدمت لی اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔“

رمضان کے زمانے میں آدمی کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ خود روزے سے ہے ویسے ہی اس کا نوکر بھی روزے سے ہے۔ نوکر اور خادم سے اس طرح کس کر خدمت لینا کہ جیسے وہ تو روزے سے نہیں ہے۔ اور آپ ہیں کہ روزہ رکھنے کا نہ ہال ہوئے جاتے ہیں، یہ کسی بھلے آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ جو شخص رمضان کے زمانے میں اپنے نوکر کے کام میں تنخیف کرتا ہے اور اس سے نرمی بر تتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔

موجودہ زمانے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ماتحتوں سے۔۔۔ نوکروں یا غلاموں سے نہیں۔۔۔ رمضان کے زمانے میں معمول سے زیادہ کس کر کام لیتے ہیں۔ گویا وہ اپنے عمل سے یہ بات کہتے ہیں کہ اچھا تم نے روزہ رکھنے کی گستاخی کی ہے۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہاری ڈیوٹی عام دنوں سے دگنی ہو گئی ہے تاکہ تمہیں ذرا معلوم تو ہو کہ اس زمانے میں اور ہمارے زیر سایہ تم روزہ رکھنے کی جسارت کرتے ہو لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی غلام بھی ہے (یہاں مملوک کا لفظ ہے، خادم کا لفظ نہیں ہے) تو تمہارا یہ کام ہے کہ رمضان کے زمانے میں اس سے سخت قسم کا کام نہ لو۔ بلکہ اس کے ساتھ نرمی بر تو اور اسے ہر ممکن سہولت دو۔ اس بات کا صلہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے یہ ہو گا کہ وہ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔

### رمضان المبارک میں حضور کی شفقت اور فیاضی کی دو مثالیں:

(10) غنِ ابن عثیمین، قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيرٍ، وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ" - (رواہ البیهقی فی شعب الایمان)

حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسیر کو رہا کر دیتے تھے اور ہر سائل کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ (بیہقی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رحم دلی، نرمی، عطا، بخشش اور فیاضی کا جو حال عام دنوں میں تھا وہ تو تھا ہی، کہ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمانہ کا حصہ تھیں، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر ان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے کہیں زیادہ گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ کے ساتھ آپ کی محبت میں شدت آجائی تھی اس لیے آپ کی نیکیاں بھی عام دنوں کی پہ نسبت کہیں زیادہ بڑھ جاتی تھیں۔ جیسا کہ خود حضور کا ارشاد ہے کہ عام دنوں میں فرض ادا کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ رمضان میں نفل ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اس لیے آپ رمضان کے زمانے میں بہت کثرت سے نیکیاں کرتے تھے۔ یہاں حضور کے عمل میں سے دو چیزیں مثال کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ اسیروں کو رہا کرنا اور مانگنے والوں کو دینا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بارے میں کہ، "آپ رمضان میں ہر قیدی کو رہا کر دیتے تھے" "محدثین کے درمیان بخشش پیدا ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جرم کی پاداش میں قید ہے تو اس کو محض رمضان کے مہینے کی وجہ سے رہا کر دینا یا سزا نہ دینا کس طرح انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو سکتا ہے؟۔۔۔۔۔ اس بنا پر اس قول کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں۔ بعض محدثین کے نزدیک اس سے مراد جنگی قیدی ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے ذمے کا قرض ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے ماخوذ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کر کے ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ اس طرح کی بعض دوسری توجیہات بھی اس قول کی گئی ہیں۔۔۔۔۔ اگر غور کیا جائے تو اس کی ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً آج کل کے زمانے میں ایک طریقہ پیروں (parole) پر رہا کرنے کا ہے، یعنی قیدی کو قول لے کر رہا کر دینا۔ قیدی کو اس امید پر کر دیا جاتا ہے کہ وہ رہائی کی مدت ختم ہونے کے بعد خود واپس آجائے گا۔۔۔۔۔ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ اس میں اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ جس قیدی کو رہا کیا جا رہا ہے وہ یہ خیال کر کے کہ اب مجھے کون پکڑتا ہے کسی ایسی جگہ فرار ہو جائے گا جہاں سے اس کو پکڑنا ممکن نہ رہے گا۔ وہ تو ایسے لوگ تھے کہ اگر ان سے کوئی قصور سرزد ہو جاتا تھا تو خود آگر اس کا اعتذاف کرتے تھے تاکہ ان کو سزا دے کر پاک کر دیا جائے۔۔۔۔۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ عمل کی یہ شکل رہی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو، جن کی سزا معاف نہ ہو سکتی تھی، رمضان کے زمانے میں مشروط طور پر رہا کر دیتے ہوں تاکہ وہ رمضان کا مبارک زمانہ اپنے گھروں پر گزاریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### جنت ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کی آمد تک مسلسل سجائی جاتی ہے:

(11) وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْجَنَّةَ تُرْكُّفُ لِرَمَضَانَ مِنْ زَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى حَوْلٍ قَابِلٍ . قَالَ: " فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بَيْتُ رَبِّنِي تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْخُورِ الْعَيْنِ فَيُقْتَلُ: يَارِبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِنَادِكَ أَرْوَاجًا تَقْرَبُ بِهِمْ أَغْيَنُنَا وَتَقْرَبُ أَغْيَنُهُمْ بِنَا " (رواه البیهقی فی شعب الإيمان)

حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آنے والے سال تک (یعنی ایک رمضان کے خاتمے سے اگلے رمضان کی آمد تک) سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں میں گزرتی ہوئی آہو چشم حوروں کے اوپر پہنچتی ہے۔ اس ہوا کو پا کر حوریں کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے (نیکوکار) بندوں میں سے ایسے شوہر عطا کر جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جن کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ (بیہقی)

اس ارشاد کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ بتایا ہے کہ اگر تم رمضان کا زمانہ اللہ تعالیٰ کی پوری فرمانبرداری کے جذبے سے اور گھرے تعلق کے ساتھ روزے رکھنے اور دوسرا نیکیاں کرنے میں گزارو تو یہ کچھ نعمتیں جنت میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔

### رمضان کی آخری رات کو امت مسلمہ کی مغفرت ہو جاتی ہے:

(12) وَعَنْ أُبِي بُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يُعْفَرُ لِأُمَّةٍ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنِي لَيْلَةُ الْقُدْرِ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُؤْفَى أَجْرُهُ إِذَا قُضِيَ عَمَلُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان کی آخری رات کو میری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا یہی وہ لیلۃ القدر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اُس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔ (احمد)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر، "رمضان کی آخری رات میری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے" صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہی رات لیلۃ القدر ہو اور اس کی فضیلت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مزدور کو اجرت کام مکمل ہونے پر دی جاتی ہے۔ میری امت کی اجرت یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔

امت کی مغفرت ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ اُن لوگوں کو بھی مغفرت ہو جاتی ہے جونہ روزے رکھیں اور نہ دوسرے احکام کی پیروی کریں، بلکہ یہ مغفرت امت کے ان لوگوں کی ہوتی ہے جو روزے رکھتے ہیں اور احکام خداوندی کی پیروی کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اُس زمانے میں یہ بات قابل تصور ہی نہ تھی کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہو اور پھر روزہ بھی نہ رکھے۔ اُس وقت پوری کی پوری امت روزہ رکھتی تھی۔ رمضان کا سارا زمانہ خدا کی عبادت میں گزارتی تھی، ہر طرح کی بُرا یوں سے بچتی تھی اور عام دنوں سے بڑھ کر نیکیاں کرتی۔ اس لیے یہاں اُس امت کی مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ ورنہ اس سے مراد وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ان کی بے راہ روی اور سر کشی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنا تو ایک طرف رہا اُنٹا بر سر عام بے تکلفی سے کھاتے پیتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات کو ایسے لوگوں کی مغفرت ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے بلکہ اُس رات شاید اُن کے خلاف مقدمہ نوجداری۔۔۔۔۔ مکمل ہو جاتا ہو گا۔ (Prosecution case)

### باب رُؤيَةِ الْهِلَالِ

اس باب میں وہ احادیث ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ رویتِ ہلal کس طرح ثابت ہوتی ہے۔ نیز یہ کہ شعبان کے ہلal کا رمضان سے رمضان کے ہلal کا روزوں سے اور شوال کے ہلal کا عید سے کیا تعلق ہے۔

### الفصل الاول

رمضان کے آغاز اور اختتام کا فیصلہ رویتِ ہلal پر ہے:

(13) عَنْ أَبْنَىْ عَمِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوُ الْهَلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّىٰ تَرُوْهُ فَإِنْ عَمِّ عَائِمُكُمْ فَأَدْنِرُوهُ إِلَهًا - وَفِي رِوَايَةِ ——— قَالَ الشَّهْرُ تَسْعُ وَعِشْرُونَ لِيَاهَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرُوْهُ فَإِنْ عَمِّ عَائِمُكُمْ فَأَكْلُوْهُ الْجَدَّةَ ثَلَاثِينَ - (متطرق عليه)

حضرت عبد اللہ بن (رضی اللہ عنہما) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک (رمضان کا) ہلال نہ دیکھ لوروزہ رکھنا شروع نہ کرو، اور جب تک (شووال کا) ہلال نہ دیکھ لوافطار نہ کرو (یعنی روزہ رکھنا ختم نہ کرو)۔ پھر اگر مطلع ابرآلود ہونے کی وجہ سے چاند تم کو نظر نہ آئے تو اس کا اندازہ کرلو۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں۔۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے۔ پس روزہ رکھنا شروع نہ کر وجب تک کہ (رمضان کا) ہلال نہ دیکھ لو۔ پھر اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ تم کو نظر نہ آئے تو (شعمان کے) تیس دن بورے کرو۔ (متفق علمہ)

اس حدیث میں پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ جب تک رمضان کا ہلال دیکھنے لوروزے رکھنا شروع نہ کرو۔ لَا تَصُوْمُوا كامطلب نہیں کہ روزہ رکھو بلکہ مراد یہ ہے کہ روزہ رکھنا شروع نہ کرو، یعنی رمضان کا ہلال دیکھنے بغیر رمضان کا آغاز قرار نہ دو۔ پھر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تم میں سے ہر شخص چاند دیکھے بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ حَتَّىٰ تَرَوْا، یعنی تم لوگ چاند دیکھ لو۔ دوسرے الفاظ میں اگر کسی بستی یا علاقے کے لوگوں نے عام طور پر چاند دیکھ لیا ہو تو پھر یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص انفرادی طور پر چاند دیکھے بلکہ عام لوگوں کا اس کو دیکھ لینا ہر آدمی کے لیے جوت ہے۔

رویتِ ہلال کی یہ تاکید اس لیے فرمائی گئی کہ رمضان کے آغاز کی علامت رویتِ ہلال ہے کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ چونکہ جنتزی کے حساب سے نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ چونکہ جنتزی کے حساب سے آج شعبان ختم ہو رہا ہے اور آج رمضان کا ہلال ہونا چاہیے اس لیے اعلان کر دیا جائے کہ کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے۔ نہیں بلکہ رمضان کے آغاز کے لیے رویتِ ہلال ضروری ہے۔

یہ جو فرمایا کہ جب تک (شوال کا) ہلال دیکھنے لو، افطار نہ کرو، اس سے مراد روزہ افطار کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان ختم ہو گیا اور شوال کا چاند نظر آگیا تو اب روزے ختم ہوئے اور کل عید الغفران ہے۔ یعنی رمضان کا آغاز بھی ہلال دیکھ کر ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی ہلال دیکھ کر ہوتا ہے، فیصلہ رویت ہلال سے ہے، کسی حساب سے نہیں۔

آگے چل کر فرمایا کہ مطیع صاف نہ ہونے کی بنابر اگر چاند تم سے مخفی رہ جائے تو پھر اندازہ کرلو۔ ”اندازہ کرلو“ کا مفہوم دوسری روایت سے واضح ہو گیا ہے، اور وہ اس طرح کہ فرمایا گیا، ”مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے، پس روزہ رکھنا شروع نہ کرو جب تک ہلاں نہ دیکھ لو، پھر اگر وہ تم سے چھپا رہ جائے تو ۳۰ دن پورے کرو“ مطلب یہ ہوا کہ اگر ۲۹ شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو پھر شعبان کا مہینہ ۳۰ دن کا قرار دیا جائے گا اور رمضان کا اعلان کسی حساب کی بنابر نہیں کیا جائے گا (جیسا کہ بعض لوگوں نے ”اندازہ کرلو“ کے الفاظ سے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے)۔ اس صورت میں رمضان کا آغاز شعبان کے ۳۰ دن پورے کرنے کے بعد ہو گا۔

اگر ۲۹ شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن یورے کے جائیں:

(١٤) وَعَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَاكُمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَاكُمْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوَا عِدَّهُ شَعْبَانَ ثَلَاثَيْنَ - (مُتَقَوْلَى عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی: چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرو۔ پھر اگر چاند مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے تم سے چھپا رہ جائے تو شعبان کے تیس دن پورے کرو۔ (متفق علیہ)

اس جگہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں عبادات کے لیے شمسی مہینوں کو نہیں بلکہ قمری مہینوں کو اختیار کیا گیا ہے۔ یہ کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اہل عرب شمسی مہینوں سے واقف نہیں تھے اور ان کی سہولت کے لیے قمری مہینوں کو اختیار کر لیا گیا۔ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب شمسی مہینوں کا استعمال بھی کرتے تھے۔ مشرکین عرب میں نسی کا طریقہ راجح تھا جس کی مذمت قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ لَئِمَا النَّسَيْئِ زِيَادَةً فِي الْكُفَّارِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُخْلُفُهُمْ عَامًا وَجَنَاحِرُهُمْ عَدَّةً مَا حَرَمَ اللَّهُ فَيُنْجِلُّوْهُمْ حَرَمَ اللَّهُ رُزْقَنَ لَهُمْ سُوَءٌ أَعْمَالُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِ (التوبہ: ۳۷) عرب میں نسی کی دو صورتیں راجح تھیں: ”ایک صورت تو یہ تھی کہ اہل عرب جنگ و جدل اور غارت گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بعد میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے حرام مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھادیتے تھے، تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے فک جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہیں۔ اس طرح ۳۶ سال تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا اور صرف سنتیسویں سال ایک مرتبہ اصل ذی الحجه کی ۹، ۱۰ تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔ یہی وہ بات ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمائی تھی کہ اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آگیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے۔<sup>1</sup>

اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اہل عرب شمسی مہینوں سے ناواقف نہیں تھے۔۔۔۔۔ بات دراصل یہ ہے کہ ”الله تعالیٰ نے اپنے عائد کردہ فرائض کے لیے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب جن اہم مصالح کی بناء پر اختیار کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے بندے زمانے کی تمام گردشوں میں ہر قسم کے حالات اور کیفیات میں اس کے احکام کی اطاعت کے خو گرہوں۔ مثلاً رمضان کبھی گرمی میں اور کبھی برسات میں اور کبھی سردیوں میں آتا ہے، اور اہل ایمان ان سب بدلتے ہوئے حالات میں روزے رکھ کر فرمانبرداری کا ثبوت بھی دیتے ہیں اور بہترین اخلاقی تربیت بھی پاتے ہیں اسی طرح حج بھی قمری حساب سے مختلف موسموں میں آتا ہے اور ان سب طرح کے اچھے اور بُرے حالات میں خدا کی رضا کے لیے سفر کر کے بندے اپنے خدا کی آزمائش میں پورے بھی اترتے ہیں اور بندگی میں پختگی بھی حاصل کرتے ہیں۔<sup>2</sup>

علاوہ بریں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ”ایک عالمگیر دین جو سب انسانوں کے لیے ہے، آخر کس شمسی مہینے کو روزے اور حج کے لیے مقرر کرے؟ جو مہینہ بھی مقرر کیا جائے گا وہ زمین کے تمام باشندوں کے لیے یکساں سہولت کا موسن نہیں ہو سکتا۔ کہیں وہ گرمی کا زمانہ ہو گا اور کہیں سردی کا۔ کہیں وہ بارشوں کا موسن ہو گا اور کہیں خشکی کا۔ کہیں فصلیں کاٹنے کا زمانہ ہو گا اور کہیں بو نے کا۔“<sup>3</sup> اس لیے یہ لازم تھا کہ

<sup>1</sup> تفسیر القرآن جلد دوم، ص: ۱۹۳

<sup>2</sup> تفسیر القرآن جلد دوم، ص: ۱۹۳ (حاشیہ: ۳۷)

<sup>3</sup> تفسیر القرآن جلد دوم، ص: ۱۹۳

ان عبادات کے زمانوں کا تعین کرنے کے لیے شمسی حساب کے بجائے قمری حساب کا اختیار کیا جاتا تاکہ ہر خطہ زمین پر بنے والے لوگ ہر موسم میں ان عبادات کی بجا آوری سے ان کے اخلاقی اور روحانی فوائد حاصل کر سکیں۔

شمسی حساب کو عبادات کی بنیاد قرار دینے کی یہ قباحت بھی بالکل واضح ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہر مسلمان کے لیے یا تو فلکیات اور نجوم کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا، یا جنتری اس کے دین کا جز بن جاتی، جسے پاس رکھے بغیر وہ فرانچ دینی ادا نہ کر سکتا۔ اس لیے اس کے بجائے آسمان کے اوپر ہر ماہ جنتری کا جو بہت بڑا ورق الٹتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تاریخیں جانے کا ذریعہ بنایا تاکہ اگر کوئی آدمی صحر ایں زندگی گزار رہا ہو یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر اس کی کثیابی ہوئی ہو تو وہ بھی اسے دیکھ کر یہ معلوم کر لے کہ اب رمضان کا چاند ہو گیا ہے اور روزے شروع ہو گئے ہیں، یا شوال کا چاند نکل آیا ہے اور کل عید الفطر ہے۔

رویت ہلال کے سلسلے میں مطلع غبار آلود یا ابر آلود ہونے کی صورت میں جو دو قوت پیش آسکتی ہے اس کے متعلق یہ حدایت کردی گئی کہ ۲۹ کو چاند نظر نہ آنے کی صورت میں مہینے کے ۳۰ دن پورے کیے جائیں۔ اس طرح اس تذبذب کو ختم کر دیا گیا جو ۲۹ تاریخ ہو چاند نظر نہ آسکنے کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔

## اسلامی عبادات کے لیے قمری حساب کو اختیار کرنے کی حکمت:

(15) وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمَّةً أَمَّيَّةً لَا تَكْنُبُ وَلَا تَحْسِبُ الشَّهْرَ بِكَدًا وَبِكَدًا . وَعَقَدَ الْإِبَامَ فِي التَّالِثَةِ . ثُمَّ قَالَ: الشَّهْرُ بِكَدًا وَبِكَدًا . يَعْنِي شَمَاءَ التَّلَاثِينَ يَعْنِي مَرَّةً تَسْعَ وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ"

حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم ایک ایسی قوم ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ (نجوم کا) حساب جانتے ہیں۔۔۔۔۔ مہینہ یوں ہے اور یوں ہے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے یہ بات سمجھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھیں) اور تیسری مرتبہ اپنے انگوٹھے کو بند کر لیا (مرا دیہ تھی کہ مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے)۔۔۔۔۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے، یعنی پورے ۳۰ دن کا۔۔۔۔۔ اس طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور دوسری دفعہ یہ سمجھا کہ مہینہ ۳۰ تیس دن کا ہوتا ہے۔ (متفق علیہ) اہل عرب کا یہ عام قاعدہ تھا کہ وہ انگلیوں سے گن کر حساب لگاتے تھے یعنی اگر دس کہنا ہوتا تھا تو دونوں ہاتھ کھلی انگلیوں کے ساتھ اٹھا کر اشارے سے بیان کرتے تھے یادوںوں ہاتھوں کی انگلیوں کو گن کرتاتے تھے، جیسا کہ خود ہمارے ہاں دیہات میں آن پڑھ لوگوں کا اب بھی یہ قاعدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عربی زبان میں ان اعداد کے لیے الفاظ نہیں تھے بلکہ عربوں میں یہ عام طریقہ رائج چلا آ رہا تھا۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کی انگلیوں سے یہ بات سمجھائی کہ مہینہ کبھی ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور کبھی ۳۰ دن کا۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیت کی تشریح فرمائی کہ ہم پڑھ لکھے لوگ نہیں ہیں اور نہ ہم نجوم کا حساب جانتے ہیں کہ اس ذریعے سے مہینوں کے آغاز اور اختتام کا حساب لگاتے رہیں۔ ہمارے اندر پڑھ لکھے لوگوں کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہے اس وجہ سے ہمارے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم حساب کتاب کے ذریعے سے یہ طے کریں کہ کون سا مہینہ شروع ہوا ہے اور کون سا ختم ہوا ہے۔۔۔۔۔ اس طریقے سے حضور نے اس چیز کی حکمت سمجھادی کہ قمری مہینوں کے آغاز و اختتام کی علامت رویت ہلال کو کیوں قرار دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کو اس زمانے میں سائنس کا ہیضہ ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سائنس کا زمانہ ہے۔ اس کے اندر تو بڑی آسانی کے ساتھ اس بات کی تحقیق کی جاسکتی ہے کہ چاند ہوا یا نہیں۔ مطلع پر چاند اگر موجود ہو اور فضاصاف نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہ آ رہا ہو تو ایسے آلات موجود ہیں جن کی مدد سے اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔ خود علم فلکیات اور علم نجوم (Astronorny) کے ذریعے سے بھی اس بات کا تعین کیا جاسکتا ہے کہ آج چاند ہو گا یا نہیں۔۔۔۔ لیکن یہ لوگ دراصل اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ایک عالم گیر دین کبھی مصنوعی ذرائع پر انحصار نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ انہی ذرائع پر انحصار کرے گا جو زیادہ سے زیادہ فطری ہوں اور جن پر اعتماد کر کے جدید ترین سائنسی ترقیوں سے بہرہ ور لوگ بھی اس دین پر عمل پیرا ہو سکیں، اور وہ لوگ بھی ایک سچے مسلمان کی سی زندگی بسر کر سکیں جو ان ترقیوں کے ثرات سے محروم یانا آشنا ہوں۔

رویت ہلال کے لیے سائنسی ذرائع کو اختیار کرنے کا مشورہ دینے والے حضرات کی طرف سے ایک یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ اس طریقے سے سب مسلمانوں کی عبید (کم از کم پاکستان میں) ایک ہی دن ہو سکے گی کیونکہ عبید اسلامی اتحاد کا ایک اہم نشان ہے اور رویت ہلال میں اختلاف واقع ہو جانے سے مسلمانوں کے اس اتحاد کو ٹھیک پہنچتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ ساری دنیا

کے مسلمانوں کی عید ایک ہی دن ہونی چاہیے۔ لیکن درحقیقت یہ فکر و نظر کی غلطی ہے۔ ایسی باتیں دین سے ناواقفیت کی بنا پر کی جاتی ہیں اور یہ باتیں زیادہ تروہ لوگ کرتے ہیں جو رمضان کے روزے تو نہیں رکھتے مگر عید کے معاملے میں اسلامی اتحاد کی انھیں بڑی فکر ہے۔ ”

”جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی عید ایک دن ہونی چاہیے وہ تو بالکل ہی لغویات کہتے ہیں، کیونکہ تمام دنیا میں روایتِ ہلال کا لازماً اور ہمیشہ ایک ہی دن ہونا ممکن نہیں ہے۔ رہا کسی ملک یا کسی ملک کے ایک بڑے علاقے میں سب مسلمانوں کی ایک عید ہونے کا مسئلہ تو شریعت نے اس کو بھی لازماً نہیں کیا ہے۔ یہ اگر ہو سکے اور کسی ملک میں شرعی قواعد کے مطابق روایت کی شہادت اور اس کے اعلان کا انتظام کر دیا جائے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے، مگر شریعت کا یہ مطالبہ ہرگز نہیں ہے کہ ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور نہ شریعت کی نگاہ میں یہ کوئی برائی ہے کہ مختلف علاقوں کی عید مختلف دنوں میں ہوں۔ خدا کا دین تمام انسانوں کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ آج لوگ ریڈیو کی موجودگی کی بنا پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ سب کی عید ایک دن ہونی چاہیے، مگر آج سے ساٹھ ستر برس پہلے تک پورے بر صیغہ ہند تور کنار، اس کے کسی ایک صوبے میں بھی یہ ممکن نہ تھا کہ ۲۹ رمضان کو عید کا چاند دیکھ لیے جانے کی اطلاع سب مسلمانوں تک پہنچ جاتی۔ اگر شریعت نے عید کی وحدت کو لازم کر دیا تو ہوتا تو پچھلی صدیوں میں مسلمان اس حکم پر آخر کیسے عمل کر سکتے تھے؟ پھر آج بھی اس کو لازم کر کے عید کی یہ وحدت قائم کرنا عملًا ممکن نہیں ہے۔ مسلمان صرف بڑے شہروں اور قصبوں ہی میں نہیں رہتے، ڈور دراز دیہات میں بھی رہتے ہیں اور بہت سے مسلمان جنگلوں اور پہاڑوں میں بھی مقیم ہیں۔ وحدتِ عید کو ایک لازمی شرعی حکم بنانے کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے ملک میں صرف ایک ریڈیو سٹیشن کا ہونا ہی ضروری نہ ہو، بلکہ ہر شخص کے پاس، باہر گھر کے لوگوں کے پاس، مسلمانوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بستی میں ایک ریڈیو سیٹ یا ایک ٹرانزسٹر بھی ضرور ہو، ورنہ وہ اپنے شرعاً فرائض ادا نہ کر سکیں گے۔ کیا یہ آلات بھی اب دین کا ایک لازمی جز قرار پائیں گے؟ خدا کی شریعت نے تو ایسے قواعد مقرر کیے ہیں، جن سے ہر مسلمان کے لیے ہر حالات میں دینی فرائض ادا کرتا ممکن ہوتا ہے۔ اس نے نماز کے اوقات گھریوں کے حساب سے مقرر نہیں کیے کہ گھری ہر مسلمان کے لیے اس کے دین کا ایک جذب ن جائے، بلکہ اس نے سورج کے طلوع و غروب اور زوال جیسے عالمگیر مناظر کو اوقات نماز کی علامت قرار دیا، جبکہ ہر شخص ہر جگہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے روزے شروع اور ختم کرنے کے لیے بھی رمضان اور شوال کے چاند کی رویت کو علامت قرار دیا ہے جو عالمگیر مشاہدے کی چیز ہے اور ہر مسلمان ہر جگہ چاند دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ اب رمضان شروع ہوا اور اب ختم ہو گیا اگر وہ اس کی بنیاد جنتزی کے حساب کو قرار دیتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہر مسلمان کے لیے یا تو فلکیات اور نجوم کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا، یا جنتزی اس کے دین کا ایک جذب ن جائی، جسے پاس رکھے بغیر وہ فرائض دینی ادا نہ کر سکتا۔ اور اگر وہ یہ حکم دیتا کہ ایک جگہ کی رویت سے ساری دنیا میں یاروئے زمین کی ایک ایک اقلیم میں روزے شروع اور ختم کرنا فرض ہے تو خبر رسانی کے موجودہ ذرائع کی ایجاد سے پہلے تو مسلمان اس دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے تھے، رہا ان کی ایجاد کے بعد کا دور تو اس میں بھی مسلمانوں پر یہ مصیبت نازل ہو جاتی کہ چاہے انھیں روٹی اور کپڑا میسر ہو یا نہ ہو، مگر وہ مسلمان رہنا چاہیں تو ان کے پاس ایک ٹرانزسٹر ضرور ہو۔<sup>1</sup>

<sup>1</sup> خطبہ عید الفطر، ص: ۱۸ (شائع کردہ ایوان ادب، اردو بازار لاہور)

## رمضان اور ذوالحجہ (اجروفضیلت کے لحاظ سے) کبھی ناقص نہیں ہوتے:

(16) وَعَنْ أُبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَهْرًا عِيدٌ لَا يَنْفَعُصَانِ: رَمَضَانٌ وَدُوْلُ الْجَجَةَ" (مُتَّقِّنُ عَلَيْهِ)  
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عید کے دو مہینے کبھی ناقص نہیں ہوتے،  
رمضان اور ذوالحجہ۔ (متقن علیہ)

رمضان کو عید کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے فوراً بعد عید آتی ہے۔ گویا عید الفطر کا حقیقی تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔

بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یہ مطلب لیا ہے کہ یہ دونوں مہینے کبھی بیک وقت ۲۹ دن کے نہیں ہوتے لیکن یہ ایک غیر علمی توجیہ ہے۔ رمضان اور ذوالحجہ کے مہینے ایک سال میں ۲۹ دن کے ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ حدیث کا مطلب دراصل یہ ہے کہ یہ مہینے خواہ ۲۹ دن کے ہوں خواہ ۳۰ دن کے، ان کے اجر و ثواب اور فضیلت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر رمضان ۳۰ کے بجائے ۲۹ دن کا ہو تو اس کے روزوں کے روزوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی (یعنی ۲۹ روزوں کا ثواب ۳۰ روزوں سے کم ہوگا) اسی طرح ذوالحجہ کے عشرہ اول کی جو فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس میں کوئی کمی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ یہ مہینہ ۳۰ کے بجائے ۲۹ دن کا ہوا۔

## رمضان سے ایک دن یادو دن پہلے روزہ رکھنا ممنوع ہے:

(17) وَعَنْ أُبِي بُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَقدَّمُ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصُومٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صومًا فَلِيصمِّ ذَلِكَ الْيَوْمَ (مُتَّقِّنُ عَلَيْهِ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یادو دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ لایہ کہ کوئی شخص معمولاً اس دن روزہ رکھا کرتا ہو۔ ایسا آدمی اس دن کاروزہ رکھ سکتا ہے۔ (متقن علیہ)

آگے ایک اور حدیث آرہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت بیان ہوئی ہے کہ نصف شعبان کے بعد کوئی روزہ نہ رکھا جائے۔ اس کی دو مصلحتیں ہیں:

ایک یہ ہے کہ رمضان سے پہلے متصل زمانے میں روزے رکھنے سے آدمی کو ایسی کمزوری لاحق ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے رمضان کے روزے پورا کرنا مشکل ہو جائے۔ جن لوگوں کو کبھی رمضان کے علاوہ نفل یا قضا روزے رکھنے کا تجربہ ہوا ہے انھیں یہ علم ہے کہ بعض اوقات رمضان کے زمانے میں دس روزوں کی بہ نسبت دوسرے زمانے کا ایک دن کاروزہ آدمی کی طاقت توڑ دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے زمانے میں چونکہ پوری قوم مل کر روزہ رکھ رہی ہوتی ہے اس لیے ایک ایک فرد کاروزہ دوسرے کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا ایک عام ماحول اور فضاضیدا ہو جاتی ہے جس کی بدولت آدمی پورے مہینے کے روزے آسانی سے رکھ لیتا ہے۔ لیکن رمضان کے ماساو دوسرے دنوں میں ایک آدمی اکیلا ہی روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اور اس کے گرد و پیش کا پورا ماحول اس سے غیر موافق ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو روزہ رکھنے میں زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے جس کے نتیجے میں وہ معمول سے کہیں زیادہ کمزوری اور ضعف محسوس کرتا ہے۔ اس لیے تاکید فرمادی گئی کہ رمضان سے متصل پہلے زمانے میں کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔

دوسری مصلحت یہ ہے کہ شریعت اسلامی کامزاج فرض میں نہ کسی کمی کو برداشت کرتا ہے نہ اضافے کو۔ چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اس لیے اس سے بالکل متصل پہلے روزہ رکھنے سے اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے کہ فرض عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ ایک شخص اپنی جگہ یہ خیال کر کے کہ مجھے رمضان کے ۳۰ دنوں کا ثواب تو ملے گا ہی، کیوں نہ ایک آدھ دن کے ثواب کامزید اضافہ ہو جائے، اور وہ رمضان سے ایک یاد و دن پہلے روزے رکھنا شروع کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اُس نے فرض عبادت میں ایک اضافہ اپنی طرف سے تجویز کر لیا۔ یہی فعل وہ بدعت ہے جس کو مگر اہی قرار دیا گیا اور اس کا انجام نا۔ جہنم بتایا گیا۔ آخر اہل کتاب نے اور پھر خود مسلمانوں نے خدا کی شریعت میں جو اضافے کیے ہیں وہ اسی طرح تو ہوئے ہیں کہ مختلف چیزوں کو نیکیاں قرار دے دے کر فرائض کے ساتھ ملا لیا گیا۔ پھر ان کی اتنی فضیلتیں اپنے ذہن سے تصنیف کی گئیں اور ان کی اس قدر اشاعت اور تائید کی گئی کہ وہ فرائض سے بھی بڑھ کر اہم قرار پائیں۔ اس طرح وہ آخر کار خدا کی شریعت کا جز بن گئیں، اور جز بھی ایسا کہ جو اصل سے زیادہ اہم ہو گیا گیا۔ اس لیے اسلامی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جس چیز کی جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس میں نہ کسی کو کم کرنے کا اختیار ہے نہ اضافہ کرنے کا۔ اگر ظہر کے چار فرض مقرر کیے گئے ہیں تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کو کم کر کے تین قرار دے دے یا اضافہ کر کے پانچ رکعت ٹھہرائے۔ بندے کا کام اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے فرض میں اضافہ کرتا ہے تو تحقیقت میں وہ عبادت نہ ہوئی بلکہ اپنی جگہ ایک قانون سازی ہوئی۔ اب جو حقیقی قانون ساز ہے اس کا مطالبہ تو یہ ہے کہ اس کے بناءے ہوئے قانون کی بے کم و کاست تعییں کی جائے۔ اس میں کمی بیشی کرنا ایک صریح نافرمانی ہے بلکہ بعض حالات میں کفر ہے۔ نماز میں یہ چیز مسنون ہے کہ امام جب فرض نماز پڑھا کر فارغ ہو جائے تو فوراً پلٹ جائے تاکہ مزید قبلہ رخ بیٹھے رہنا بھی نماز کا ایک حصہ نہ بن جائے۔ یہ ہدایت بھی کی گئی کہ نماز باجماعت سے فارغ ہو کر سنیت منتشر ہو کر الگ الگ بڑھی جائیں اور جماعت کی ہیئت کو برقرار نہ رہنے دیا جائے تاکہ سنیت بھی نماز باجماعت کا حصہ نہ بن جائیں۔ اسی طرح جب روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کر دیا گیا تواب کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس کے ساتھ ملا کر کچھ اور دنوں کا روزہ بھی رکھ کے کیونکہ پچھر فرض میں اضافے کی موجب بن سکتی ہے۔

یہ جو فرمایا کہ الٰہ یکوں رجُل کان یصوّم صوماً۔۔۔۔۔ اُنچیعنی جو شخص معمولاً اس دن کاروزہ رکھتا ہو اس کو ایسا کرنے کی اجازت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مہینے کی آخری تاریخوں کو نفی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہو، یا ہفتہ کا کوئی ایک دن اس نے نفی روزے کے لیے خاص کر کھا ہو اور وہ دن اتفاق سے رمضان سے پہلے آپرے تو اس کے لیے اس دن کاروزہ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ وہ اپنے معمول کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔

الفَصْلُ الثَّانِي

نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا ممنوع ہے:

(18) وَعَنْ أَبِي بُرْيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اتَّصَافَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجْهٖ وَالْأَدْرِيْمِيُّ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب شعبان کا مہینہ آدھا گزر چکے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، داری)

اس حکم کی تشریح پہلے گزر چکی ہے اور اس کی ایک استثنائی شکل بھی بیان ہو چکی ہے۔ دوسری استثنائی شکل نذر یا قضا کے روزوں کے متعلق ہے۔ اس کی توضیح اپنے مقام پر آئے گی۔

### رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرنے کا حکم:

(19) وَعَنْ أَبِي بُرْيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْصُوا بِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ  
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی: رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرو۔ (ترمذی)

یہ ہدایت اس لیے فرمائی کہ اگر شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام نہ کیا جائے تو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ شعبان کی کون سی تاریخ ہے۔ چنانچہ رمضان کے آغاز کا فیصلہ کرنے میں بھی مشکل پیش آسکتی ہے کیونکہ اگر رمضان کی آمد آمر پر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا تو اس بات کا تعین کرنا ناممکن ہو جائے گا کہ آج شعبان کی ۲۹ تاریخ ہے یا تیس۔ اگر شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کیا گیا ہو تو ۲۹ تاریخ کو رمضان کا ہلال نظر نہ آنے کی صورت میں شعبان کے ۳۰ دن پورے کیے جائیں گے۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ آج شعبان کی ۳۰ تاریخ ہے تو چاند خواہ نظر آئے یا نہ آئے اگر روز سے رمضان کا آغاز قرار دیا جائے گا۔ اس لیے رمضان کے آغاز کا صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔

### رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے:

(20) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَشَابِعِينَ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ . رَوَاهُ أَبُو ذَاؤْدَ وَالْتِرْمِذِيُّ  
وَالنَّسَائِيُّ وَأَبْنَيْنَ مَاجِدَ

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مسلسل دو مہینے کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان کے۔ (ابوداؤد، ترمذ، نسائی، ابن ماجہ)

اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھا جائے لیکن اس حدیث سے آپ کا اپنا عمل یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اکثر (ہمیشہ نہیں بلکہ اکثر) شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ دوسروں کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معمولات ایسے تھے جو آپ ہی کے لیے خاص تھے اور دوسروں کے لیے ان کا اتباع درست نہیں، یا کم از کم ان پر وہ لازم نہیں ہیں۔ مثلاً تہجد کی نماز حضور کے لیے لازم تھی جب کہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ دوسرے لوگ یہ نماز پڑھیں تو ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت ہیں۔ مثلاً عام مسلمانوں پر یہ پابندی ہے کہ وہ ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابند نہیں تھی۔ خود قرآن مجید ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنی کیا گیا ہے اس طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حق حضور کو نہیں دیا گیا جب کہ عام مسلمانوں کو وہ حاصل ہے۔ مثلاً عام مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کتابیہ سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کی کچھ خصوصیات

ہیں جن میں کوئی دوسرا شخص حضور کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضور شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے جب کہ عام مسلمانوں کے لیے نصف شعبان کے بعد ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

### شک کے دن کاروزہ رکھنا جائز نہیں:

(21) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشْكُ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُ أَبُو ذَاوِدَ وَالْتِرْمِذِيُّ وَالسَّائِقِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ وَالْمَارْمِي

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس دن کاروزہ رکھا جس کے بارے میں شک ہو تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں۔ گویا وہ اپنے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدایت نقل فرمائے ہیں کہ شک کے دن کاروزہ نہ رکھا جائے۔ شک کے دن سے مراد وہ دن ہے جس میں یہ بات مشکوک ہو کہ آیا آج رمضان شروع ہو گیا ہے یا نہیں۔ مثلاً اگر آج شعبان کی ۲۹ تاریخ ہے اور مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو یہ بات مشکوک ہو گئی کہ آیا واقعی چاند ہوا ہے یا نہیں۔۔۔۔۔ اب اگر کوئی شخص یہ خیال کر کے کہ ممکن ہے چاند ہو گیا ہوا گلے دن کاروزہ رکھ لے تو یہ غلط ہے کیونکہ اسی کو شک کا دن کہا گیا ہے اور اس میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کی بنیاد شک پر نہیں بلکہ یقین پر ہونی چاہیے۔ مثلاً بعض لوگوں کو اس امر میں شک ہوتا ہے کہ جس بستی یا علاقے میں وہ مقیم ہیں وہاں جمعہ پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور ظہر کے چار فرض بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کا جمعہ بھی مشکوک اور ظہر کے ۴ فرض بھی مشکوک۔ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اگر انھیں یقین ہے کہ جمعہ ہو جاتا ہے تو پھر صرف جمعہ پڑھیں، ۴ فرض نہ پڑھیں۔ اگر یقین ہے کہ جمعہ نہیں ہوتا تو پھر ظہر پڑھیں جمعہ نہ پڑھیں۔ لیکن شک کے ساتھ عباد کرنا غلط ہے۔۔۔ ایسا ہی معاملہ رمضان کا ہے کہ اگر یقین ہے کہ آج رمضان شروع ہو گیا ہے تو روزہ رکھیے، اگر یقین نہیں تو پھر شک کے ساتھ روزہ رکھنا صحیح نہیں۔ اس صورت کے بارے میں پہلے یہ حدایت گزر چکی ہے کہ ۲۹ تاریخ کو ہلال نظر نہ آنے کی صورت میں شعبان کے ۳۰ دن پورے کیے جائیں۔

### رویتِ ہلال کی شہادت صرف مومن کی معتبر ہے:

(22) وَعَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْإِلَالَ يَعْنِي بِلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ: أَتَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَتَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يَا بِلَالُ أَدِينُ فِي التَّائِسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا . رَوَاهُ أَبُو ذَاوِدَ وَالْتِرْمِذِيُّ وَالسَّائِقِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ وَالْمَارْمِي

حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ ایک بدوبنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، یعنی رمضان کا چاند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوکوئی الہ نہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دے کر کہا کہ اے بلال! لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل سے روزہ رکھیں۔

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

یہ ایک بڑی اہم حدیث ہے جس سے بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں:

پہلی بات یہ ہے کہ رویتِ ہلال کے سلسلے میں شہادت کی ضرورت اُس وقت پیش آتی ہے جب مطلع صاف نہ ہو اور عام لوگ چاندنہ دیکھ سکے ہوں۔ اگر مطلع صاف ہو تو ہزاروں لاکھوں آدمی چاند کا مشاہدہ کر لیتے ہیں اس لیے کسی شہادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے بر عکس اگر مطلع صاف ہو لیکن ہزاروں آدمی کوشش کے باوجود اس کونہ دیکھ سکے ہوں تو اس صورت میں اگر کوئی ایک آدمی یا چند آدمی آکر شہادت دیں کہ انہوں نے چاند دیکھ لیا ہے تو ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی خواہ وہ کیسے ہی متفق اور پر ہیز گار ہوں۔ ”آخر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ آسمان پر جو چیز نمایاں ہوا سے لاکھوں آدمی تونہ دیکھ سکیں اور بس دو چار یاد س پانچ آدمی دیکھ لیں۔ البتہ اگر مطلع صاف نہ ہو اور بادل فضا پر چھائے ہوئے ہوں، اس صورت میں دو چار آدمی اگر یہ بیان کریں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے تو ان کی یہ شہادت قبل غور ہو سکتی ہے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بدی کہیں سے ہٹی ہو اور کسی کو چاند نظر آگیا ہو۔ اس صورت میں صرف بھی دیکھنا ہو گا کہ یہ لوگ سچے ہیں یا نہیں اور خود نمازو زے کے پابند ہیں یا نہیں۔<sup>1</sup>

دوسری بات یہ ہے کہ رویتِ ہلال کے معاملے میں پہلے مرحلے پر شہادت درکار ہوتی ہے اور دوسرے مرحلے پر صرف خبر کافی ہو جاتی ہے، یعنی سب سے پہلے اس امر کی شہادت قائم ہونی چاہیے کہ چاند ایسے چند دیموں نے دیکھا ہے جو بھروسے کے قابل تھے۔ کسی معتبر مجلس یا کسی مفتی یا قاضی نے یہ شہادت میں لی ہوں، ان شہادتوں کی بنابر جب وہ مطمئن ہو کہ رویتِ ہلال کا اعلان کر دے تو اس کے بعد یہ ضروری نہیں رہتا کہ ہر ایک آدمی یا تو خود چاند دیکھے یا اس کے سامنے شہادت میں پیش ہوں۔ بلکہ مجلس مجاز یا مفتی یا قاضی کے اعلان کی بنابر اگر سائز بھیں یا فقارے بھیں یا شہر میں عام پر چاہو کہ چاند دیکھا گیا تو عام لوگوں کے لیے خیر کافی ہے۔<sup>2</sup>

تیسرا بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی شہادتِ رمضان کے چاند کے لیے عید کے چاند کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی شہادت کو رمضان کے چاند کے بارے میں قبول فرمایا ہے۔ البتہ عید کے چاند کے بارے میں فقهاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کم از کم دو آدمیوں کی شہادت ضروری ہے۔ اس معاملے میں صرف ایک آدمی کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے چاند کے لیے لوگوں میں وہ بے تابی نہیں ہوتی جو عید کے چاند کے لیے ہوتی ہے اس لیے اس کے معاملے میں احتیاط کا پہلو غالب رہنا چاہیے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ شہادت دینے والے کامومن ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویتِ ہلال کی شہادت دینے والے اعرابی کا مومن ہونا تحقیق فرمایا۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ دینی معاملات میں کسی غیر مومن کی شہادت قبل قبول نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ ایک غیر مومن کو اس بات کی کیا فکر ہو سکتی ہے کہ اس کی غلط گواہی سے آپ کے کسی دینی فریضے میں کوئی خرابی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے بر عکس ایک مومن کے لیے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آیا کل رمضان شروع ہو رہا ہے یا نہیں۔ یا کل عید ہے یا نہیں، کیونکہ اگر کل عید ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے اور اگر عید نہیں ہے تو روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ اور پھر اس صورت میں جب کہ معاملہ پوری جماعتِ مسلمین کے ایک دینی فریضے کا وہ کیسے اتنی بڑی غیر ذمہ داری کا مر تکب ہو سکتا ہے کہ غلط معلومات بہم پہنچائے۔

<sup>1</sup> خطبہ عید الفطر، ص: ۶، ۷

<sup>2</sup> خطبہ عید الفطر، ص: ۷، ۸

پانچویں بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اُس اعرابی نے اپنے مومن ہونے کا اقرار کیا تو پھر حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں کوئی مزید تحقیقات نہ کی کہ آیا وہ شخص فاسق و فاجر تو نہیں ہے جب اس بات کا طمینان فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہے تو پھر اس کی شہادت قبول فرمائی۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جب تک کسی آدمی کا فاسق ہونا معلوم نہ ہو جائے اُس وقت تک اس کی شہادت رد نہیں کی جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں کسی مسلمان کی شہادت اس بنابر رُد نہیں کی جائے گی کہ اس کا غیر فاسق ہونا معلوم نہیں ہوا۔ ایک مسلمان کے بارے میں ابتدائی مفروضہ یہی ہو گا کہ وہ فاسق نہیں ہے۔ اس کے غیر فاسق ہونے کی تحقیقات نہیں کرائی جائے گی۔ ہاں اگر کسی کا فاسق ہونا معلوم ہو تو پھر اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

### رویتِ ہلالِ رمضان کے لیے ایک مسلمان کی شہادت کافی ہے:

(23) وَعَنْ أَبِي عُمَرْ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ إِلَيْلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْيَ رَأْيَتُهُ فَصَامَ وَأَمْرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ رَوَاهُ أَبُو ذَاوِدُ الدَّارِمِي

حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) کا بیان ہے کہ لوگ (اکٹھے ہو کر رمضان کا) چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پس میں نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ اُس پر حضور نے روزہ رکھنے کا فیصلہ فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیں۔ (ابوداؤد، دارمی)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں چونکہ یہ معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہیں اور صحابی ہیں اس لیے ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں۔ بس ان کی شہادت پر رمضان کے روزوں کا فیصلہ کیا گیا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں رویتِ ہلalِ رمضان کے لیے ایک آدمی کی شہادت کافی ہے ترَایِ الناس الْهَلَالَ کے الفاظ سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مطلع صاف نہ ہونے کی بنابر چاند نظر نہیں آرہا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو وہ نظر آگیا اس لیے انھوں نے آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، چنانچہ آپ نے ان کی خبر پر آغازِ صوم رمضان کا فیصلہ فرمایا۔

اس امر میں تو عام طور پر اتفاق ہے کہ ہلalِ رمضان کے لیے ایک آدمی کی شہادت بھی قبل قبول ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ صرف ایک آدمی کی شہادت کن حالات میں قبول کی جائے گی۔ بعض فقهاء کے نزدیک رمضان کے چاند کے معاملے میں ایک ہی آدمی کی شہادت ہر حالت میں معتبر ہے۔ امام ابوحنیفہ بھی ایک آدمی کی شہادت کو تسليم کرتے ہیں لیکن اس صورت میں جب کہ مطلع صاف نہ ہو۔ اگر مطلع صاف ہو تو پھر ان کے نزدیک ایک آدمی کی شہادت کافی نہیں بلکہ اس صورت میں بہت سے لوگوں کا رویتِ ہلal کی گواہی دینا ضروری ہے۔۔۔۔ اور امام مالک اور بعض دوسرے فقهاء کا یہ مسلک ہے کہ رمضان کے چاند کے لیے کم از کم دو قابل اعتبار آدمیوں کی شہادت ضروری ہے، لیکن پیش نظر حدیث ان کے مسلک کے خلاف جاتی ہے۔ البتہ بعض دوسری احادیث سے ان کے مسلک کو تقویت پہنچتی ہے، اگرچہ ان سے بھی یہ قطعی حکم نہیں نکلتا کہ ایک آدمی کی شہادت معتبر نہیں ہے۔

الفُصْلُ الثَّالِثُ

حضرور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخیں معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے:

(24) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَالًا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ. ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا  
رَمَضَانَ فَإِنْ قَمَ عَلَيْهِ عَدْ ثَلَاثَيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ. رَوَاهُ أَبُو ذَارُوذ

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بہ نسبت شعبان کی زیادہ حفاظت کرتے تھے (یعنی اس کی تاریخوں کو معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے) پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے۔ اگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا تھا تو شعبان کے ۳۰ دن شمار کر کے روزہ رکھنا شروع کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

پہلے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا تھا کہ شعبان کا پالال دیکھنے کا اہتمام کرو، اب یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کے چاند دیکھنے اور ان کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا شعبان کے معاملے میں فرماتے تھے، تاکہ اس کی تاریخوں کا ٹھیک ٹھیک حساب معلوم رہے۔ فرض کیجیے کہ مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے شعبان کا چاندر جب کی ۲۹ تاریخ کو نظرنا آیا ہو تو مہینہ بھر کے دوران میں تحقیق کر کے اس بات کا تعین کیا جاسکتا ہے کہ اس روز چاند نکلا تھا یا نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعبان کی تاریخیں محفوظ کرنے کا اہتمام کیا جاتا تھا تاکہ ہلالِ رمضان کی تلاش کرتے وقت یہ یقینی طور پر معلوم رہے کہ آج شعبان کی ۲۹ تاریخ ہے یا تیس۔

ایک مہینے کی مدت دوسرے مہینے کا ہلال نظر آنے تک ہے:

(25) وَعَنْ أَبِي الْبَحْرَى قَالَ: حَرَجْنَا لِلْعُمَرَةِ فَلَمَّا تَرْلَنَا يَبْطِئُنَّ حَكْلَةً شَرَاءَ بَيْنَ الْإِلَالَ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: بُو ابْنُ ثَلَاثٍ. وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: بُو ابْنُ لَيْلَتْنِ فَلَقِيَنَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْإِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: بُو ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: بُو ابْنُ لَيْلَتْنِ فَقَالَ: أَئِ لَيْلَةً رَأَيْتُهُ؟ فَقُلْنَا: لَيْلَةً كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدَهُ لِلرُّؤْيَا رَأَيْتُمُوهُ . . . . وَفِي رَوَايَةِ عَنْ . . . . قَالَ: أَبْلَلْنَا رَضَانَ وَخُنْ يَدَاتِ عَرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَدَهُ لِرُؤْيَايَةٍ فَإِنْ أَنْجَى عَلَيْكُمْ فَأَكْلُوا الْعَدَّةَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت ابوالبھتری بیان کرتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے (اپنے شہر سے) نکلے۔ (راستے میں) جب ہم بطنِ خلہ<sup>1</sup> کے مقام پر ٹھہرے تو ہم نے جمع ہو کر چاندِ مکھنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تیسری رات کا چاند ہے اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دوسری شب کا چاند ہے۔ پھر ہم (مکہ پہنچ کر) حضرت عبد اللہ بن عباس سے ملے اور ہم نے ان سے بیان کیا کہ ہم نے ہلال دیکھا ہے اور ہم میں سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تیسری رات کا چاند تھا اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسری رات کا چاند تھا۔ حضرت ابن عباس نے دریافت کیا کہ تم نے کس رات کو چاند دیکھا تھا۔ ہم نے انھیں بتایا کہ فلاں فلاں رات کو دیکھا تھا۔ اس پر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی مدت (اگلے مہینے کے) چاند کی رویت تک قرار دی ہے۔ پس وہ چاند اُسی رات کا تھا جس رات تم نے اسے دیکھا تھا۔ حضرت ابوالبھتری رحمہ اللہ سے ایک اور روایت مردی ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم نے رمضان کا

<sup>1</sup> مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام۔

ہلال دیکھا جب کہ ہم۔۔۔ ذاتِ عرق<sup>1</sup> کے مقام پر تھے۔ ہم نے ایک شخص کو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا تاکہ وہ (اختلاف مذکور کے بارے میں) ان سے سوال کرے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مینے کے امتداد کو ہلال کی روایت تک رکھا ہے۔ پس اگر مطلع ابرآسود ہونے کی وجہ سے چاند تمہیں نظر نہ آئے تو پھر (مہین کے دنوں کی) تعداد (۳۰ تک) پوری کرو۔ (مسلم)

حضرت ابوالبحتری رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں اور یہ واقعہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور کا بیان کیا ہے۔ اگر مطلع ابرآسود ہونے کی وجہ سے روایت ہلال کے بارے میں فیصلہ نہ ہو سکا ہوا اور پھر اگلے روز یا اس سے اگلے روز چاند دیکھنے کے بعد لوگوں میں یہ بحث چھڑ جائے کہ آج چاند دوسری شب کا ہے یا تیسرا شب کا تو ظاہر بات ہے کہ اس سے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ اس لیے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا تدارک کرنے کے لیے اس بات کی وضاحت فرمادی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی مدت کا مدار روایت ہلال پر رکھا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینے کے امتداد کو روایت ہلال تک رکھا ہے۔ یعنی ایک مہینہ دوسرے مہینے کا چاند دیکھ کر ختم ہوتا ہے اور اگر ۲۹ تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو پھر مہینے کے دنوں کی تعداد ۳۰ تک پوری کی جائے۔ محض چاند کی لمبائی یا موٹائی کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کونسی تاریخ چاند ہے سراسر خود کو شک میں مبتلا کرنے والی بات ہے بل روایت پر اپنے فیصلے کا مدار رکھو، خواہ مخواہ کے قیاسات پر فیصلہ نہ کرو اور بلا وجہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے سے احتراز کرو۔

## بَابُ فِي مَسَائِلِ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ الفَصْلُ الْأَوَّلُ

سحری کرنے میں برکت ہے:

(26) عَنْ أَئِسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسْخَرُوا إِنَّ فِي السَّحُورِ بُرْكَةً۔ (متفق عالیہ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ (متفق عالیہ)

اسلام کی مقرر کردہ عبادات اور دنیا کے دوسرے مذاہب کی عبادات میں ایک اصولی فرق ہے اور اس فرق کی وجہ سے ان کے فوائد میں فرق واقع ہوا ہے۔

وہ اصولی فرق یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں عبادات کے پیچھے یہ تصور کا رفرما ہے کہ آدمی کا اپنے بدن کو تکلیف میں مبتلا کرنا اس کی روحانی ترقی اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بتاتا ہے۔ مثلاً ان کے نزدیک بھوکامر ناللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ آدمی کو اس کے قریب کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے اس تصور کے مطابق متعدد ایسے ہی دوسرے کام کرتے ہیں مثلاً کوئی کسی کنوئیں کے اندر اٹھا لٹک رہا ہے۔ کوئی کہیں بھٹ کے اندر

<sup>1</sup> بطن خند کے قریب ایک جگہ۔ (مرتب)

زندگی گزار رہا ہے اور طرح طرح کے جانور اس کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ اور ایسی ہی دوسری بہت سی اذیتیں تقرب خداوندی کے خواہش مند خود اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک آدمی کا اپنے جسم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا لیقین دلانے کا ذریعہ ہے کہ یہ بندہ تیری محبت اور عشق میں ایسا بتلا ہے کہ اپنے آپ کو مارے دے رہا ہے۔۔۔۔۔ لیکن اسلامی تصورِ عبادت کی رو سے یہ تصورات سراسر جہالت پر مبنی ہیں۔

### اسلامی عبادات کا مقصد۔۔۔۔۔ تربیت و تزکیہ نفس:

اس کے بر عکس اسلام کی عبادات حقیقت میں آدمی کی تربیت کے مقرر کی گئی ہیں اور اس تربیت کے ذریعے سے یہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہی روزہ ہے۔ روزہ میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو بھوک پیاس میں بتلا کیا، اور آپ کی اس تکلیف سے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی ہوئی بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی اطاعت کی اور اس کی فرمانبرداری کا عملی مظاہرہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک خاص وقت تک تم کھاپی سکتے ہو اس کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے تو جس وقت تک اس نے اجازت دی آپ نے اس وقت تک کھایا پیا، اس کے بعد رک گئے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور اس کے نافرمان نہیں ہیں۔ پھر جس وقت تک وہ کہتا ہے کہ آپ نہ کھائیں، آپ نہیں کھاتے پیتے۔ چاہے بھوک اور پیاس نے آپ کو کیسا ہی نہ ہال کر رکھا ہو۔ اس طرح آپ کا ایک خاص وقت تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک رکھنا یہی معنی تور کھتا ہے کہ آپ اس کے فرمانبردار بندے ہیں۔ آپ کی یہی فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہی فرمانبرداری در حقیقت عبادات کا حاصل ہے ورنہ مخفی آپ کو تکلیف دینا اللہ تعالیٰ کا مقصود نہیں۔۔۔۔۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ اب تم کھاؤ یہ اس وقت اگر آپ بے نیاز برستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ دعویٰ لے کر آتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے اوپر اتنا قابو ہے کہ (معاذ اللہ) آپ کے تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ دیکھئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کتنا قابو رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ سزادیتا ہے جو اس نے عیسائی را ہیوں کو دی۔

### اسلام میں عبادات کا تصور یکسر مختلف ہے:

یہاں تو یہ صورت ہے کہ جس وقت آپ کو اجازت دی گئی ہے اس وقت آپ کا یہ فرض ہے کہ اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کا رب اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کی دی ہوئی اجازتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ آپ سے ناراض صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ ان حدود سے تجاوز کریں جو اس نے مقرر کر دی ہیں جس جگہ اس کی طرف سے ممانعت ہے وہاں اگر آپ اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں تو یہ بات اس کی ناراضی کی موجب بنتی ہے لیکن یہ بات اس کی ناراضی کا سبب نہیں بنتی کہ آپ نے اس کی اجازت کے وقت اچھا کھانا کیوں کھایا۔۔۔۔۔ اچھے کھانے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیے ہیں اور آپ ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ آپ اس کی نعمتوں سے ممتنع ہوں تو وہ آخر آپ سے کیوں ناراض ہو گا۔۔۔۔۔ چنانچہ جس وقت وہ کہتا ہے کہ بھوک رہو تو اس وقت بھوک رہیے اور جس وقت وہ کہتا ہے

کہ کھاؤ تو اس وقت کھائیے۔۔۔۔۔ اس تصور سے ہمارے روزوں میں اور دوسرے مذاہب والوں کے روزوں میں فرق واقع ہوا جاتا ہے اور یہ فرق آغاز اور انجم دنوں گھبلوں پر پایا جاتا ہے۔

اہل کتاب کے روزوں میں سحری کرنا نہیں تھا۔ ان کاروزہ سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا تھا اور وہ رات ہی کو کھاپی کر فارغ ہو جاتے تھے۔ پھر وہ روزہ دوسرے دن کے سورج کے غروب ہونے تک چلتا تھا۔ لیکن ان کے اندر جو لوگ زیادہ ”زہد و تقویٰ“ برتنے والے تھے وہ دوسرے دن کاروزہ کھولتے ہی اگلاروزہ شروع کر دیتے تھے، اور کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوتا تھا جو مثلاً مٹر کے ایک دانے سے روزہ کھوں لیتا اور دوسرا روزہ شروع کر لیتا۔ پھر ان میں بعض ایسے باکمال تھے جو دوسرے دن کاروزہ بھی نہیں کھولتے تھے اور اگلاروزہ شروع کر لیتے تھے۔ اسی طرح تین تین چار چار دن کاروزہ رکھتے تھے۔ گویا جو جتنا بڑا اہب ہوتا تھا یا جس کو اپنے ذوقِ تقویٰ کا کوئی خاص

سحری کھانے میں کیا برکت ہے:

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے ”۔۔۔ سحری کھانے میں برکت یہ ہے کہ اس سے آپ کو اللہ کے حکم کی بجا آوری میں سہولت ہوتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فجر کے وقت سے روزہ شروع کرنا اور غروب آفتاب کے وقت ختم کرو۔ اب جس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے فائدہ اٹھا کر کھا پی لیتے ہیں تو وہ کھایا بیاد بھر آپ کے کام آئے گا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس سے لازماً آپ کو کمزوری لاحق ہو گی۔ اب چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ روزے مہینہ بھر رکھے جائیں اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کسی آدمی کی طاقت اور ہمت یہ مدت پوری کرنے سے پہلے ہی جواب دے جائے۔ اس لیے نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی بنابری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی تاکید فرمائی کہ جس وقت کھانے پینے کی تمحیص اجازت ہے اس وقت تم کھاؤتا کہ جس وقت تمحیص کھانے پینے کی اجازت نہ ہو گی اس میں تمحیص اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانے کی طاقت حاصل رہے۔

اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق:

(27) وَعَنْ عُمَرِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصُلُّ مَا يَنْ صِيَامُنَا وَصِيَامُ أَبْلِ الْكِتَابِ أَكْلُهُ السَّحَرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ہے سحری کا لقہ، (یا سحری کا کھانا) ” (مسلم)

چونکہ اہل کتاب کا روزہ سحری کے بغیر ہوتا ہے اور ہمارا روزہ سحری کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے یہی بات ہمارے اور ان کے روزے میں فرق کرتی ہے ان کا تصور یہ ہے کہ روزہ خود کو تکلیف دینے کے لیے ہے جب کہ ہمارا تصور یہ ہے کہ روزہ حکم بجالانے کی عادت ڈالنے کے لیے ہے۔ ہم فرمانبرداری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں اور وہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسی ایسی تکلیفیں اٹھاتے ہیں جن کے اٹھانے کا حکم خدا نہیں دیا ہے۔

## جلدی افطار کرنے میں بھلائی ہے:

(28) وَعَنْ سَهْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بَخِيرٌ مَا مَجَلُوا الْفِطْرَ - (مُتَقْرَرٌ عَلَيْهِ)

حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار کرتے ہیں جلدی کرتے رہیں گے۔ (متقرر علیہ)

یہود کا یہ دستور تھا کہ روزہ اس وقت کھولتے تھے جب آسمان پر ستارے چھٹک آتے تھے اور اس میں بھی جو آدمی جتنی زیادہ دیر کرتا تھا وہ اتنا ہی زیادہ متقدی اور زاہد و پر ہیز گار مانا جاتا تھا۔ یہ گویا ان کے نزدیک اس بات کی علامت تھی کہ یہ شخص کھانے کے لیے مطلق بے تاب نہیں تھا اور دیکھو کیسا ضبط نفس ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو بھی گیا ہے لیکن پھر بھی نہیں کھول رہا ہے۔ اسلام میں اس طرح کے نمائشی تقویٰ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اس وقت تک تو آپ اس طرح زکے رہیں کہ جیسے کسی نے آپ کو باندھ رکھا تھا۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے آپ اُسی وقت اُس چیز کی طرف دوڑیں جس سے اب تک رکے ہوئے تھے۔ اور اس سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کریں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بندہ اُس کے حکم کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ اگر اس کا حکم رکنے کا نہ ہوتا تو یہ نہ رکتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اُسے پابند کر رکھا تھا اس لیے اس نے اپنی خواہشات اور اپنی بھوک پیاس ہر چیز پر پابندی لگا رکھی تھی لیکن جو نہیں اس پر سے پابندی ہٹائی گئی وہ پوری آزادی سے کھانے پینے لگا اور اپنی دوسری ضروریات پوری کرنے لگا چونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خیر پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس سے یہ تنبیہ بھی مقصود تھی کہ اگر لوگوں نے افطار میں دیر لگانی شروع کر دی تو ان کو وہ بیماری لگنی شروع ہو جائے گی جس میں اہل کتاب مبتلا ہوئے۔

## اسلام برائی کو مقام آغاز سے روکتا ہے:

قرآن مجید اور احادیث کا گہر امطالعہ کرنے سے آپ کو معلوم ہو گا کہ اس معاملے میں اسلام کا مراجح یہ ہے اگر کوئی خطرناک چیز کافی فاصلے پر ہو تو مومن کو چاہیے کہ اس کی جانب محض اس خیال سے نہ بڑھتا چلا جائے کہ اس کے قریب پہنچ کر تو میں رُک ہی جاؤں گا۔ اس کے بر عکس اسلام تو خطرہ کی سڑک جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں سے آپ کو روکتا ہے اور ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھانے کو پسند نہیں کرتا۔ اب چونکہ اسلام رہبانیت کو سخت ناپسند کرتا ہے اور روزے کے معاملے میں یہ بیماری اس مقام سے لگتی ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہو لیکن آپ محض اس لیے تاخیر کریں کہ اس تاخیر کے ذریعے سے جتنی زیادہ دیر آپ اپنے جسم کو تکلیف دیں گے۔ خدا اتنا ہی زیادہ آپ سے خوش ہو گا اس لیے اس معاملے میں تنبیہ کردی گئی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ چیز تمحیں خیر سے محروم کر دے گی اور اللہ کی خوشنودی کے بجائے الٹی اس کی ناراضی کی موجب ہو گی۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقی خوشنودی تو اس بات میں ہے کہ آپ اس کے احکام کی پیروی کریں، اس کی عاید کردہ پابندیوں کو قبول کریں اور اس کی دی ہوئی اجازتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جو چیز اس نے آپ کے لیے حلال کی ہے اس سے آپ پوری طرح ممتنع ہوں اور جس چیز کو اُس نے حرام ٹھہرایا ہے اس سے آپ رُک جائیں اور اپنی طرف سے اس کے احکام میں کوئی کمی بیشی نہ کریں۔ یہی فرمانبرداری وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ پر خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے افطار کا جو وقت مقرر کر دیا ہے اسی پر افطار کرنا اللہ کو محبوب ہے اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔

### روزہ کھولنے کا صحیح وقت:

(29) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيلُ مِنْ بَعْدِ النَّهَارِ مِنْ بَعْدِهَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. (متفقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رات اس طرف سے آنی شروع ہو اور دن اس طرف سے پلندا شروع ہو اور سورج ڈوب جائے تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ ”(متفق علیہ)“ یعنی مشرق کی طرف سے اگر رات کی تار کی بلند ہوئی شروع ہو جائے اور معلوم ہو کہ تار کی ابھرتی چلی آرہی ہے اور دوسری طرف مغرب کی جانب یہ کیفیت ہو کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن پلٹ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کو فوراً روزہ کھول لینا چاہیے۔

اگر روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہو اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہوں کہ روزہ کھولیں یا نہ کھولیں تو یہ بات غلط اور شریعت کی روح کے منافی ہے۔ افطار کا وقت ہوتے ہی بلا تاخیر روزہ کھولنا چاہیے۔

### صوم وصال رکھنا جائز نہیں:

(30) وَعَنْ أَبِي بُرْيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَبَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّومِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَأَئِنَّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَنْتُ يُطْعَمُنِي رَبِّي وَيُسْقِينِي". (متفقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فی الصوم سے منع فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ بھی تو وصال فی الصوم فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا: تم میں سے کون میرے مانند ہے، میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب بھی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ”(متفق علیہ)“

اس حدیث میں ایک اہم مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اہل کتاب میں روزہ رکھنے کے جو مختلف طریقے راجح تھے ان میں سے ایک صوم وصال کا طریقہ تھا اس کی بھی مختلف شکلیں تھیں۔ ایک شکل یہ تھی کہ ایک شخص فرض روزوں کے مساوا نفلی روزے اس طریقے سے رکھے کہ بغیر وقفہ کیے مسلسل مہینے مہینے، دو دو مہینے کے روزے رکھتا چلا جائے۔ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسا کرتے تھے اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے تھے جو ابدًا صوم وصال رکھتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ روزوں کے علاوہ باقی دنوں میں بھی وہ روزہ دار ہی رہتے تھے۔ صوم وصال کی دوسری شکل یہ تھی کہ ایک شخص ایک سحری کھا کر دوسری سحری تک مسلسل روزہ رکھے اور در میان میں افطار نہ کرے۔ بلکہ بعض اوقات دو دو، تین تین دن کا روزہ مسلسل رکھے۔ اہل کتاب میں صوم وصال کی یہ دونوں شکلیں راجح تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو روزے کے اس طریقے یعنی وصال فی الصوم سے منع فرمایا کیونکہ یہ اہل کتاب کا طریقہ تھا۔ البتہ اس جگہ یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو عرض کیا گیا کہ آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صوم وصال سے کیا مراد ہے۔ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سحری سے دوسری

سحری تک روزہ رکھتے تھے یا طویل عرصے تک مسلسل روزے رکھتے تھے۔ اغلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سحری سے دوسرا سحری تک کارروزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ مسلسل نفلی روزے رکھتے تھے۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ ایک مدت تک روزے نہیں بھی رکھتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود صوم وصال رکھنا آپ کی ان خصوصیات میں سے ہے جن کی تقليید دوسرے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کیوضاحت فرمادی کہ تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔

## الفصل الثاني

روزے کی نیت کرنا ضروری ہے:

(31) عَنْ حُنْفَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَجْعَمْ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صَيَامَ لَهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالذَّارِمِيُّ -

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ (ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی)

اس ارشاد سے مقصود یہ ہے کہ جب آپ کسی عبادت کا آغاز کرنے لگیں تو اس وقت یہ نیت کریں کہ میں یہ عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ آدمی کھاتا پینتا تو فاقہ میں بھی نہیں لیکن جو چیز روزے اور فاقہ میں فرق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھتے وقت آپ اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ میں اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر کھانا پینا ترک کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ نیت نہ کی تو بظاہر روزے اور فاقہ میں کوئی فرق نہ رہا۔

روزے کا آغاز چونکہ فجر سے ہوتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت سے پہلے یہ عزم کر لو کہ تم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہو۔ اگر ایمانہ کرو گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے روزے اور فاقہ میں کوئی امتیاز قائم نہیں کیا۔

تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا بھول گیا تو اس کارروزہ ہی ساقط ہو گیا اور اسے بعد میں اس کی قضا ادا کرنا ہو گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ روزہ رکھتے وقت یہ نیت کرنی بھول گئے ہوں تو جس وقت آپ کو یاد آئے اسی وقت روزے کی نیت کر لیں، ورنہ یہ بات اپنی جگہ پر تواضع ہے کہ آپ کی نیت روزے کی موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ سحری کے لیے اٹھے تھے تو یہ سمجھتے ہوئے ہی تو اٹھے تھے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے اس لیے اگر روزہ رکھتے وقت آپ یہ الفاظ زبان سے ادا نہیں کر سکے کہ میں آج اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں یادل میں اس کا خیال عین آغاز صوم کے وقت نہیں آیا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہو جاتا۔۔۔۔۔۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت میں چونکہ اصل اہمیت نیت کو حاصل ہے اور اعمال کی قدر و قیمت بھی نیت ہی کی بناء پر متعین ہوتی ہے اس لیے شریعت کی نظر میں ایک فعل کو دوسرے فعل سے ممتاز کرنے والی چیز آدمی کی نیت ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ فجر سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ بالارادہ اس بات کی نیت کرے کہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں۔ ورنہ اس کے بغیر محض ظاہری فعل کی حد تک روزے اور فاقہ میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

## سحری کے وقت میں گنجائش ہوتی ہے:

(32) وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ يَمِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَعَيَ النِّتَاءَ أَحْدُمُ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِهِ فَلَا يَصْعُبُ حَتَّى يُفْضِيَ حَاجَةً مِنْهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور اُس وقت برتن ابھی اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس برتن کو اپنے ہاتھ سے نہ رکھے جب تک کہ اپنی حاجت اس سے پوری نہ کرے۔ (ابوداؤد)

یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے وقت نقارے اور سائرن نہیں بجتے تھے بلکہ لوگوں کو اذان کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گرمی کا زمانہ ہے اور لوگ باہر کھلی جگہ میں سورہ ہے ہیں تو اس حالت میں ہر شخص خود یہ دیکھ سکتا تھا کہ روزہ شروع ہونے کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بارش اور جاڑے کا زمانہ ہے اور لوگ گھروں کے اندر سحری کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ ضروری نہیں تھا کہ سب لوگ باہر نکل نکل کر دیکھیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے یا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب سحری کے وقت اذان کی آواز تمہارے کان میں پڑے اور صورت یہ ہو کہ ایک آدمی پانی پر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی وہ اسے رکھ دے بلکہ اسے اجازت ہے کہ وہ اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔

قرآن مجید اور احادیث میں سحری کے خاتمے کے وقت کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور عام مشاہدہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ سینڈوں کے حساب سے نہیں ہے کہ ایک سینڈ ادھر تو سحری کا وقت ہو اور ایک سینڈ ادھر جاتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ ختم سحر اور طلوع فجر دراصل ایک بڑا مظہر نظرت ہے جسے آدمی مشرق کی طرف دیکھتا ہے۔ مشرق سے سپیدی ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آغاز میں ایک بہکی سی دھاری نمودار ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اب گویا فجر کا آغاز ہو رہا ہے اور رات ختم ہو رہی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ طلوع فجر (Dawn) کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سینڈوں کے حساب سے ہو بلکہ وداع شب اور طلوع فجر میں چند منٹ کا فرق ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آدمی اذان کی آواز سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے ایک سینڈ پہلے تک تو سحری کا وقت تھا لیکن موذن کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتے ہی وہ وقت ختم ہو گیا۔ اس طرح کی موشگانیاں کرنا درست نہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر اتفاق سے کبھی ایسا ہو کہ آپ سوتے رہے گئے اور آنکھ کھلنے پر آپ نے ابھی چند لمحے ہی لیے تھے کہ سائرن نجی گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فوراً ہاتھ روک لیں یا برتن اپنے منہ سے ہٹالیں بلکہ جلدی جلدی تھوڑا بہت جو کچھ بھی آپ کھا پی سکتے ہیں آپ کو کھالینا چاہیے۔

اس حدیث میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ جب تم اذان کی آواز سنو یا سحری کے خاتمے کا کوئی دوسرا اعلان ہو رہا ہو اور اس وقت تمہارے ہاتھ میں کوئی برتن ہو تو اسے رکھ مت دو بلکہ اس سے اپنی حاجت پوری کرو۔

تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر اطمینان سے بیٹھا کھاتا رہے بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ جلدی سے اپنی ضروری پوری کر لیتی چاہیے۔

## افطار میں جلدی کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں:

(33) وَعَنْ أَبِي بُرْيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَجْلَاهُمْ فَطَرَا " . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ (ترمذی)

### افطار کے لیے افضل چیزیں:

(34) وَعَنْ سَلَمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْطَرَ أَخْدُوكُمْ فَلَيُفْطِرُ عَلَى شَمْرٍ فَإِنَّمَا بَرَكَةَ فِي لَمْ يَجِدْ فَلَيُفْطِرُ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْدَّارِمِيُّ . وَلَمْ يَذُكُرْ: فَإِنَّمَا بَرَكَةَ عَيْرُ التِّرْمِذِيِّ

حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو اُسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اور اگر کھجور نہ پائے تو اُسے چاہیے کہ پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی)

(35) وَعَنْ أَسِئْنِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصْلِيَ عَلَى رَطْبَاتٍ فَإِنَّمَا تَكُونُ فَتِيرَاتٍ فَإِنَّمَا تَكُونُ ثُمِيرَاتٍ حَسِيْرَاتٍ مِنْ مَاءٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم (مغرب کی) نمازوں پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتیں تو چھوہاروں سے افطار کرتے اور اگر چھوہارے بھی نہ ملتے تو چند گھونٹ پانی کے نوش فرماتے۔ (ترمذی، ابو داؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ آپ پہلے روزہ افطار کرتے تھے اور پھر نمازوں پڑھتے تھے۔ افطار میں آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ تازہ کھجور سے افطار کرتے۔ (تازہ کھجور سے یہ مراد نہیں کہ ابھی درخت سے اُتری ہو بلکہ وہ کھجور مراد ہے جو خشک نہ ہو یعنی تر کھجور، جیسے ہم یہاں کھجور استعمال کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔ اگر کھجور نہ ملتی تو پھر آپ چھوہاروں سے روزہ کھولتے تھے اور اگر کبھی اتفاق سے وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے ایک دو گھونٹ پی کر روزہ افطار فرماتے۔

### روزہ افطار کرانے والے کا اجر:

(36) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ فَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَهَنَّمَ غَازِيًّا فَلَدُّ مِثْلُ أَجْرِهِ . رَوَاهُ الْبَيْهِقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَمُحْمَّدِيُّ السَّنَتَةِ فِي شِرْحِ السَّنَتَةِ وَقَالَ صَحِيحٌ

حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے یا کسی غازی کے لیے سامان (جہاد) فراہم کر کے دے تو اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا کہ اس روزہ دار کا روزہ رکھنے کا اور غازی کو جہاد کرنے کا ملے گا۔ (بیہقی، محدث السنۃ)

شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کے لیے تو اس کی نیکی کا اجر ہے ہی لیکن جو اس کو نیکی کے ذرائع فراہم کر کے دے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کسی کو نیکی کرنے کے لیے کہہ تو اس کے لیے بھی اجر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ الدال علی الخیْر کَفَاعِلٌ (نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس نیکی کے کرنے والے کے مانند ہے)۔۔۔۔۔۔ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ نیکی

کرنے والے کے اجر میں سے کوئی حصہ لے کر اس شخص کو دے دیا جائے گا جس نے نیکی کے ذرائع اور وسائل بھم پہنچائے تھے بلکہ نیکی کرنے والے کو اس کا پورا اجر ملے گا اور اس نیکی کے لیے سفارش کرنے والے اور اس میں مددگار بنے والے کو بھی اپنا اپنا اجر ملے گا۔ کسی روزہ دار کارروزہ کھلواد یا بطاحہ معمولی سی بات ہے لیکن اس کا جواہر شاد فرمایا گیا وہ کہیں بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ محض نیکی کی طرف رغبت دلانا بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا محبوب فعل ہے کیونکہ اس سے نیکیوں کے چھینے میں مدد ملتی ہے اور انسانی خیر و فلاح کا وہ کام انجام پاتا ہے جو دین کا مقصود ہے۔

### افطار کے وقت کی مسنون دعائیں:

(37) وَعَنْ أَبِنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَبَابُ الطَّمَأْ وَأَنْشَلُتُ الْغَرُوقُ وَقَبَتُ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .  
رواہ أبو داؤد -

حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعده تھا کہ جب آپ روزہ افطار کرتے تو فرماتے کہ تشقی دوڑ ہو گئی اور رکیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا۔ اگر اللہ چاہے۔ (ابوداؤد) روزہ کھولتے وقت جو مختلف دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ یعنی حضور روزہ کھولتے وقت یہ الفاظ اد افرمایا کرتے تھے۔

(38) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ زُبْرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صَمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ . رَوَاهُ أَبُو ذَاوِدَ مُرْسَلاً

حضرت معاذ بن زہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو فرماتے تھے: اے اللہ! تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا، اور تیرے ہی رزق پر میں نے افطار کیا۔ (ابوداؤد)

اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ کوئی فرائضہ انجام دیتا ہے تو اس کا یہ فعل بذاتِ خود اپنی ایک قدر و قیمت رکھتا ہے اور اس پر وہ اجر کا مستحق ہے لیکن اس فریضے کی انجام دہی کے دوران میں اس کی دو حالتیں ہو سکتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ غفلت کے ساتھ اسے انجام دے اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے دوران میں مسلسل اپنے رب کی طرف راغب رہے اور اس کا ذکر کرتا رہے۔ ان دونوں حالتوں میں اجر اور مقبولیت کے لحاظ سے بڑا فرق ہے۔ ایک شخص کاسی فریضے کی انجام دہی کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف اہتمام کے ساتھ متوجہ رہنا اس کے اجر کو کہیں زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے کہ آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور آپ نے وہ سارے اعضاء ٹھیک ٹھیک دھوئے ہیں جو وضو میں دھونے چاہئیں۔ اس طرح بے شک آپ نماز میں کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے لیکن اگر اس وضو کے دوران میں آپ مختلف اعضاء ہونے کے ساتھ ساتھ کا ذکر بھی کرتے رہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے یہ وضو اللہ سے غفلت کی حالت میں نہیں کیا اس لیے آپ کے اس وضو کی قدر و قیمت ہی کچھ اور ہو گئی۔

بہی مثال روزے کی ہے۔ اگر آپ سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر افطار کے وقت کے وقت تک کچھ کھائیں پہیں نہیں تو آپ کارروزہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس روزے کے دوران میں اگر آپ خدا کو یاد بھی کرتے رہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے اس روزے کے اجر اور قدر و قیمت کو بہت زیادہ بڑھا لیا۔ دوسری الفاظ میں روزے کے دوران میں غفلت کے ساتھ وقت گزارنے اور اس کے بر عکس اللہ کو

یاد کرتے ہوئے وقت گزارنے میں اجر و متبولیت کے لحاظ سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔۔۔۔۔ پھر دیکھئے کہ جب روزہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ فوراً ایک سمجھو ریا افطاری کی کوئی چیز اٹھائیں اور کھائیں۔ لیکن افطار کرتے وقت بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ آپ اپنے منہ میں کوئی چیز رکھیں آپ کہتے ہیں کہ خدا یا تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیئے ہوئے رزق پر یہ روزہ افطار کر رہا ہوں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے غفلت کی حالت میں بھوکے پیاسے نہیں رہے اور نہ روزہ افطار کرتے وقت ہی اس کی یاد سے غافل ہو گئے۔ بلکہ ہر لحظہ آپ نے اس کی یاد کوتاہر رکھا۔ اس طرح گویا آپ نے اپنے اس روزے کے اجر کو کئی گناہ یادہ بڑھالیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا اور اسی کی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کرتے ہوئے دوسرا یہ عبادت میں بھی ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں تو خود اس عبادت کی قدر و قیمت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

## الفصل الشاندیث

افطار میں تاخیر کرنا یہود و نصاریٰ کی روشن ہے:

(39) عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِدُ الظَّاهِرُ مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفُطُرَ لِأَنَّ الْيَوْمَ وَالنَّصَارَى يُؤْخَرُونَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ دین نمایاں اور غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہود اور نصاریٰ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بظاہر ایک چھوٹی سی بات کے کتنے بڑے نتائج بیان فرمائے ہیں۔

روزہ کھولنے میں تاخیر کرنا اور سحری نہ کھانا اور صوم وصال رکھنا، یہ سب افعال یہود و نصاریٰ نے اپنار کھے تھے۔۔۔۔۔ یہی چیز تھی جس نے رفتہ رفتہ ان کے اندر رہبانت پیدا کی اور انھیں زندگی سے فرار کر کے گوشوں میں پناہ لینے کی طرف راغب کیا۔ لیکن دین خداوندی کا منشاء اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ کے دین کا منشاء یہ ہے کہ یہ دنیا انسانوں ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اس کی لذتیں اور آسانیشیں اور دوسرے سروسامان انسانوں ہی کے لیے ہیں۔ البتہ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرے اور ان حدود سے سرموخraf اور تجاوز نہ کرے۔۔۔۔ پس ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ شریعت نے اس کو جو سہولت اور گنجائش دی ہے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائے۔ البتہ اس سہولت کی جو حد مقرر کر دی گئی ہے اس پر جا کر رُک جائے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو یہ پابندی ہے کہ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے تم کچھ کھانے پینے کا حق نہیں رکھتے لیکن سورج ڈوبتے ہی تمھیں حق پہنچتا ہے کہ کھاؤ پیو۔ اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھی جاسکتی ہے۔ کہ روزہ افطار کرنے میں یہود اور نصاریٰ کا تاخیر کرنا دراصل رہبانت کا ایک شاخص نہ تھا اور اپنے رب سے بدگمانی اس کی جڑ تھی۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ان کا رب اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو اذیتوں میں مبتلا کیا جائے لیکن یہاں تصور یہ ہے کہ آپ کے رب کو آپ کی اطاعت و فرمانبرداری مطلوب ہے اور اس کو وہ پسند کرتا ہے چنانچہ وہ اگر ایک وقت میں پانی جیسی حلال چیز آپ کے لیے حرام کر دیتا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس کے استعمال سے رُک جائیں۔ لیکن جس وقت وہ اسے آپ کے لیے حلال کر دے تو آپ فوراً اس سے فائدہ اٹھائیں۔۔۔۔۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

جب تک تم یہود اور نصاریٰ کے اس طریقے کے خلاف افطار میں جلدی کرتے رہو گے تمہارا دین غالب اور نمایاں رہے گا، لیکن جس وقت تم نے اس میں تاخیر کرنی شروع کر دی تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب تم نے دین کی اصل اسپرٹ کو ضائع کر دیا اور اب چلے تو سیدھے رہ بانیت کی طرف۔ اس طرح جب تم نے اپنا طریقہ چھوڑ کر یہود اور نصاریٰ کے طرزِ عمل کو اختیار کر لیا تو اس کے بعد تمہارا دین غالب کیسے رہ سکتا ہے۔ ایک مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ جس چیز میں یہود اور نصاریٰ کے اخلاق و عادات اور تہذیب و تمدن کی تقلید کا شانہ بھی موجود ہوا سے کھٹک جائے اور اس سے بچ کیونکہ ان کی تقلید اختیار کرنا خود اپنے دین کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس کے بعد تمہارا دین اپنی اصلی شان کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ پہلے ایک چیز کی تقلید کرو گے اور پھر دوسرا کی۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حالت یہ ہو جائے گی کہ تمہارے اندر ایک سچے مسلمان کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ جس مقام سے بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے وہیں پر رُک جاؤ، کیونکہ اگر اس مقام پر نہ رُک کے تو پھر آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اور اسی بنابر اتنی بڑی بات فرمائی کہ تمہارا دین غالب اور نمایاں رہے گا اگر تم یہود اور نصاریٰ کی روشن کے بر عکس افطار کرنے میں جلدی کرتے رہے۔

### روزہ کھولنے اور نماز پڑھنے میں جلدی کرنا مسنون ہے:

(40) وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْأُخْرُ: يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ فَقُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ. قَالَ: بَكَدَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأُخْرُ أَبُو مُوسَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا: اے اُمُّ المؤمنین (رضی اللہ عنہا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے دو صاحب ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک تواوفطر کرنے اور نماز پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں اور دوسرے افطار اور نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں۔ اُمُّ المؤمنین رضی اللہ عنہا نے دریافت فرمایا کون صاحب ہیں جو افطار اور نماز میں جلدی کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، عبد اللہ بن مسعود۔ (رضی اللہ عنہ) فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ دوسرے صاحب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں۔ (مسلم)

یہاں پہلے تاخیر اور تعجیل (جلدی کرنے) کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعجیل کرنے سے مراد ان کا یہ عمل تھا کہ اوہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہو اور اُدھر آپ نے روزہ افطار کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری کا طریقہ یہ تھا کہ افطار کا وقت ہو جانے کے بعد قدر تامل کرتے تھے کیونکہ افطار کے وقت کا ٹھیک ٹھیک تعین ہونے اور اس کا طینان حاصل کرنے کے لیے کچھ توقف کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو اس وقت اگر ذرا سی کرن بھی نظر آرہی ہو تو آپ اس میں شبہ کرتے ہیں کہ کیا واقعہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس بات کا یقین حاصل کرنے کے لیے چند لمحے کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔

پہلے صاحب یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود تو غروبِ آفتاب کے فوراً بعد روزہ کھولنے تھے اور نماز میں بھی جلدی کرتے تھے لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روزہ کھولنے میں بھی قدرے تاخیر کرتے تھے اور نماز سے پہلے بھی کچھ دیر ٹھہر تے تھے (اور کچھ نہ کچھ)

کھاپی لیتے تھے) اس کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے روزہ کھونے کا انتظار کرتے تھے تاکہ وہ بھی اطمینان سے روزہ افطار کر کے نماز میں شریک ہو جائیں۔

اس تعجبی اور تاخیر کے معاملے میں ایک یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں عام لوگوں کے لیے کچھ سہولت اور کچھ دقت کے پہلو ہیں۔ مثلاً افطار کے بعد مسجد میں نماز جلدی ہونے کی صورت میں دیر سے آن والوں کو وقت ہوتی ہے، لیکن جو لوگ افطار کے وقت موجود ہوتے ہیں انھیں انتظار کی زحمت اٹھاناضتی ہے۔ تاہم اس معاملے میں حضرت عائشہ کے ارشاد کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ افطار میں بھی جلدی کرتے تھے اور نماز میں بھی۔۔۔۔۔ حضرت عائشہ کے اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے ان دونوں صاحبوں میں سے ایک کو صحیح اور دوسرا کو غلط قرار دیا ہے بلکہ صرف یہ بتایا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا اور اس میں مسنون طریقہ کیا ہے۔۔۔۔۔ اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کے طریقے کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے عمل کی گنجائش بھی شریعت میں موجود ہے کیونکہ وہ جس تاخیر سے کام لیتے تھے وہ یہ وہ ولی تاخیر نہیں تھی۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے غروبِ آفتاب کا اطمینان کرنے کے لیے کچھ توقف کرنے کی گنجائش بالکل قبل قابل فہم ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اس کا محیر جان بوجھ کرتا خیر کرنے یا رہانہ اختیاط پسند کا جذبہ نہ ہو۔

### حری کا کھانا ایک مبارک ناشتہ ہے:

(41) وَعَنْ الْعَزِيزِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: دَعَافِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: بَلْمَ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَاذِكَ .  
رواہ أبو ذاود والسنائی

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ حری کھانے کے لیے بلا یا اور فرمایا کہ آؤ مبارک ناشتے کے لیے۔ (ابوداؤد، سنائی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی کے مطابق حری فقط حری نہیں ہے بلکہ ایک مبارک ناشتہ ہے۔

یہودیہ سمجھتے تھے کہ اگر حری کھا کر روزہ رکھا تو کیا رکھا لیکن اسلامی شریعت میں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ روزہ صرف دن کا ہے اور رات اس میں شامل نہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رات کو کھانے پینے کی مکمل آزادی ہے اور اس آزادی سے خود کو محروم کرنا درست نہیں۔ رات کو اٹھ کر حری کھانا تو ایک مبارک ناشتہ ہے جس کے ساتھ ہم روزے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کچھ غذا کھالی جائے تاکہ دن بھر کام کا ج کرنے اور دوسرا ضروری امور سرانجام دینے کی طاقت ہمیں حاصل رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھوک اور پیاس سے نڑھاں ہو کر بیکار پڑ جائیں۔ یہ دین کا مقصود نہیں ہے۔

۔۔۔۔۔ دین کا مقصود تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی بھی کریں اور ہمارے اندر کام کرنے کی طاقت بھی رہے تاکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو فرائض اور ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ہم انھیں تمام و کمال ادا کر سکیں عبادت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا رو بارہ دنیا سے کٹ کر اور ناکارہ ہو کر الگ گوشوں میں جا بیٹھیں، بلکہ عبادت تو در حقیقت اس بات کا ایک تربیتی کورس ہے کہ

آپ ہنگامہ زارِ حیات میں اللہ تعالیٰ کے احکام وہدایات کی پابندی کرتے ہوئے کس طرح زندگی گزاریں تاکہ آخرت میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔

### بہترین سحری کھجور ہے:

(42) وَعَنْ أَبِي بُرْيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ سَخُورُ الْمُؤْمِنَ الشَّفَرُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے۔ (ابوداؤد)

کھجور میں انسان کی تمام غذائی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت بدرجہ اکتم پائی جاتی ہے۔ اگر انسان کو کوئی اور غذانہ مل سکے لیکن کھجور حاصل ہو تو یہ اس کے لیے کافی غذا ہے۔ موجودہ تحقیق کے مطابق انسان کو اپنی تو انائی برقرار رکھنے کے لیے غذا کی جتنی کلوگریاں درکار ہوتی ہیں وہ کھجور میں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جب فوجوں کو کسی صحرائی علاقے میں لمبے عرصے کے لیے قیام کرنے پڑتا ہے اور وہاں غذا مہیا کرنے کے عام موقع موجود نہیں ہوتے تو کھجوروں کا کافی ٹاک فونج کے لیے فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کئی کئی ماہ تک کوئی اور غذا میسر نہ آئے تو محض کھجور پر انحصار کیا جاسکتا ہے۔

کھجور کی اسی افادیت اور بھرپور غذا کیتی کی بنابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین سحری قرار دیا ہے۔ سحری کے طور پر اس کے استعمال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دن کے وقت آدمی کو اپنی طاقت و تو انائی برقرار رکھنے اور کام کا ج کے قابل رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔

## باب تَنْزِيهِ الصَّوْم

اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کو کن چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے اور روزے کو پاک اور درست رکھنے کے لیے کیا احتیاطیں ضروری ہیں۔ مزید برآں کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے اور ان سے روزے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی۔

ان احادیث کی تشریح و توضیح سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے تاکہ ان کے مطالعہ کے دوران میں کسی طرح کی خلش یا شبہات پیدا نہ ہوں۔

یہ بات کہ کن چیزوں سے روزے میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں ہوتی اور کیا کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی اجازت ہے اور کیا کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بیان میں بعض بڑے نازک مسائل بھی آتے ہیں۔ خصوصاً وہ مسائل جو آدمی کی خلوت کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ آدمی کی زندگی کا ایک ایسا لازمی حصہ ہیں جس سے کوئی انسان بھی بری نہیں ہے۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان اپنی اس زندگی میں کہاں تک جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اگر وضاحت کے ساتھ اس کا جواب نہ دیا جاتا تو آدمی ہر وقت ایک خلجان اور پریشانی میں مبتلا رہتا۔ علاوہ بریں اس غرض کے لیے یہ بھی ناگزیر تھا کہ اس سلسلے کی ضروری معلومات اور رہنمائی وہ ہستیاں فراہم کریں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی سے واقفیت حاصل تھی، یعنی ازدواج مطہرات (رضی اللہ عنہن)۔ طالبان رشد و بدایت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کا رہنا تھا کہ وہ حضور کی

اندرون خانہ کی زندگی کے متعلق ضروری معلومات اور ہنماں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سے حاصل کریں اور ازواج مطہرات کے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ کارنا تھا کہ وہ یہ ضروری معلومات اور ہدایات ان کو بھم پہنچائیں کیونکہ وہ اس ہستی کو بیویاں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و ہنماں کے لیے پیدا کیا تھا اور جس کی زندگی کو انسانیت کے لیے کامل نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم سبب تھا جس کی بنابر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو امت کی مائیں (امہات المومنین) قرار دیا تاکہ ان کی اس نازک حیثیت کے مطابق ان کا ضروری ادب و احترام ملحوظ و برقرار رہے اور امت کو یہ بتاویا گیا کہ اگر ان کے متعلق تم دل میں بھی کوئی بُرا خیال لاوے گے تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔

## الفصل الاول

### روزے سے مقصود تقویٰ ہے نہ فاقہ کشی:

(43) وَعَنْ أَبِي بُنْيَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الرُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدْعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنانہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور بینا چھوڑ دے۔ (بخاری)  
مراد یہ ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنانہ چھوڑتا وہ محض فاقہ کرتا ہے اور اس کا روزہ بے معنی ہے کیونکہ روزے سے جو تقویٰ، پر ہیز گاری اور خداخوند پیدا کرنا مقصود تھا وہ تو اس نے اپنے اندر پیدا ہی نہیں ہونے دی۔

### جھوٹ پر عمل کرنے سے کیا مراد ہے؟:

جھوٹ بولنے کا مطلب تو واضح ہے البتہ جھوٹ پر عمل کرنے کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔

جھوٹ بولنا تو ایک حد تک محدود چیز ہے لیکن جھوٹ پر عمل کرنا قریب قریب ساری گناہوں پر حادی ہو جاتا ہے۔

اس بات پر غور کیجیے کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے کامال نا حق ہتھیا لیا ہو تو اس نے درحقیقت ایک جھوٹ پر عمل کیا ہے۔ مال اس کا نہیں تھا لیکن اس نے اسے اپنا سمجھ کر اپنا قرار دے کر کیا یہ فیصلہ کر کے کہ اب یہ میرا ہونا چاہیے اس پر قبضہ کر لیا تو اس کی یہ چوری دراصل ایک جھوٹ ہے جس پر اس نے عمل کیا۔

اسی طرح جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے وہ اصل میں جھوٹ پر عمل کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس بات کا حق دار فرض کر لیتا ہے کہ چونکہ فلاں شخص نے میرا قصور کیا ہے اس لیے میں اسے قتل کر سکتا ہوں در آنحالیہ اسے اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس طرح درحقیقت وہ جھوٹ پر عمل کرتا ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ ایک آدمی جتنے گناہ بھی کرتا ہے خواہ وہ براہ راست خدا کی نافرمانی کے گناہوں یا بندوں پر ظلم وزیادتی کے گناہ ہوں۔ دونوں شکلوں میں درحقیقت ہر گناہ ایک جھوٹ ہے۔ اسی بنابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنانہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا بینا چھڑوا دے کیونکہ اس نے روزے کے اصل مقصد کو فوت کر دیا۔

البته یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جھوٹ نواقض صوم (یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں) میں سے نہیں ہے۔ ایک چیز تو وہ ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا چیز وہ ہے جس سے روزے کے حسن و خوبی (Quality) میں خرابی واقع ہوتی ہے مثلاً وہ اخلاقی برائیاں ہیں جن کے ارتکاب سے روزے کی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی لیکن ان سے روزہ ٹوٹنا نہیں۔ یہاں یہ فرمایا کہ اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ مدعا یہ ہے کہ اس نے روزے کے مقصد کو فوت کر دیا اور اس کے روزے کی روح ختم ہو گئی کیونکہ اس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنانہ چھوڑا۔

### روزے کی حالت میں بیوی سے میل جوں کے حدود:

(44) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتِلُ وَيُبَاشِرُ وَبُوْ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لَأْرَبِهِ۔ (مُتفقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیوی سے اختلاط (میل جوں) کر لیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ کر اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ (متفق علیہ)  
مراد یہ ہے کہ روزے میں جنسی عمل کے مساوا باقی ہر طرح کا میل جوں اور اختلاط جائز ہے۔ یہ تو ہے اصل قانون، البته اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کی وضاحت فرمادی کہ اس اجازت سے کس قسم کے آدمی کے لیے فائدہ اٹھانا درست ہے یعنی اگرچہ اصل جنسی عمل کے سوا اختلاط کی تمام شکلیں جائز ہیں لیکن اس میں یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو نہ رکسکے اور ایسا فعل کر بیٹھے جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ کر اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کو اپنی ذات پر پورا قابو ہو تو وہ اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کو اتنا قابو نہ ہو اس کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔

آگے ایک حدیث میں اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور قول سے بھی ملتی ہے۔ اس کی وضاحت اپنے موقع پر آئے گی۔

### حالتِ جنابت میں روزہ شروع کیا جاسکتا ہے:

(45) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُ الْفَجْرَ فِي رَمَضَانَ وَبُوْ جُنْبُ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْسِلُ وَيُضُومُ۔ (مُتفقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اوقات فجر ایسی حالت میں آجائی تھی کہ آپ حالتِ جنابت میں ہوتے تھے اور وہ جنابت ایسی نہیں ہوتی تھی جو خواب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر آپ غسل فرمائیتے تھے اور اس وقت آپ روزے سے ہوتے تھے۔ (متفق علیہ)

رمضان کے زمانے میں بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کورات کے وقت جنابت لاحق ہو تو کیا اس کے لیے یہ لازم ہے کہ سحری بند ہونے اور روزہ شروع ہونے سے پہلے پہلے نہا لے یا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سحری کا وقت ختم ہونے اور روزہ شروع ہو جانے کے بعد نہا لے۔ اس سوال کا جواب اس حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر کا وقت آگیا اور روزہ شروع ہونے کے بعد آپ نے غسل فرمایا۔ پھر اس کی وضاحت بھی فرمادی کہ یہ غسل وہ نہیں تھا جو خواب میں لاحق ہونے والی جنابت سے لازم آتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اس طرح کی حالت میں روزہ شروع کیا جاسکتا ہے اور اس سے روزے میں کوئی خرابی یا قباحت واقع نہیں ہوتی۔ اب ذرا غور کیجیے کہ اگر یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان نہ فرماتیں تو مسلمانوں کو کیسے معلوم ہوتی اور اگر معلوم نہ ہوتی تو انھیں اپنی پرائیویٹ زندگی میں کیسی دقتیں اور الجھنیں پیش آتیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ انہوں نے زندگی کے اس پہلوک کو لوگوں سے چھپا کر نہیں رکھا بلکہ اسی کے متعلق ضروری معلومات دیں تاکہ لوگوں کو اپنی زندگی کے اس پہلو کے متعلق رہنمائی مل سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بڑا عظیم الشان ایثار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے گھروالوں نے کیا۔ آج کچھ بے وقوف ایسے بھی ہیں جو اس چیز کے متعلق اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں یہ کیسی باتیں آگئی ہیں جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے بیان فرمائی ہیں۔ انھیں معلوم نہیں کہ اگر مومنین کی ماں میں امت کو یہ باتیں نہ بتائیں تو امت کو ان چیزوں کے متعلق ہدایات کہاں سے ملتیں۔

### احرام اور روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے کا جواز:

(46) وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ قَالَ إِنَّ الَّتِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَبُوْ مُحْرَمٌ وَالْخَتَجَمَ وَبُوْ صَاعِمٌ۔ (متّفق علیہ)

حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے ہیں اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام (کی حالت) میں تھے اور اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ (متّفق علیہ)

قدیم زمانے میں یہ طریقہ تھا اور آج کل بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ بعض طبی ضروریات کی بنا پر جسم کے کسی حصے پر کسی تیز دھار آلے یا شتر سے ہلکے ہلکے شگاف دیے جاتے ہیں جن سے خون رنے لگتا ہے اور پھر سیکنی سے اس کو چو سا جاتا ہے، اسے پچھنے لگانا کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا احرام اور روزے کی حالت میں ایسا کرنا درست ہے یا نہیں۔ اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ احرام کی حالت میں پچھنے لگائے جاسکتے ہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ پچھنے لگاتے وقت کوئی بال نہ کٹے، اگر بال کاٹے گا تو احرام میں خرابی واقع ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ روزے کی حالت میں بھی پچھنے لگوائے جاسکتے ہیں۔ البتہ اس میں اس احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی جو حالت احرام میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔

یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ پچھنے لگانے کی اجازت کے بارے میں احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف کی بنا پر امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ پچھنے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن امام احمد رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ پچھنے لگانے سے، پچھنے لگانے اور لگوائے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا استدلال ایک دوسری حدیث کی بنیاد پر ہے جو آگے آرہی ہے۔ البتہ پیش نظر حدیث میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے یہ الفاظ بالکل واضح ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے ہیں۔ اس سے طاہر ہے کہ اگر پچھنے لگوائے سے روزہ ٹوٹتا ہو تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے۔

### بھولے سے کھاپی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا:

(47) وَعَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ وَبُوَصَائِمَ فَأَلْأَوْ شَرِبَ فَإِنْتِيمَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ۔ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوروزہ دار بھولے سے کھا لے یاپی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا پلا دیا۔ (متفق علیہ)

اگر آدمی بھولے سے پیٹ بھر کر کھا لے یا گلاں بھر پانی یا کوئی چیز پی لے تو بھی اس کارروزہ نہیں ٹوٹا لیکن جس وقت اُسے یاد آجائے اسی وقت اپنے ہاتھ روک لے کیونکہ اگر اس کے بعد ایک بھورا یا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے گزر گیا تو اس کارروزہ ٹوٹ جائے گا۔

معلوم ہوا کہ بھولے سے اگر آدمی کوئی کام ایسا کر جائے جو روزہ توڑنے والا ہو تو اس سے روزے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی اور ایسے غلطی کی صورت میں اسے اپنا روزہ ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ کامل کرنا چاہیے۔

اس سے یہ اصول بھی نکلا کہ بھولے کی غلطی معاف ہے اور شریعت اس اصول کو تسلیم کرتی ہے۔

### قصد آرزو زہ توڑنے کا کفارہ:

(48) وَعَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ: يَنْبَغِي لَنْحُ جُلُوشِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَّكْتُ. قَالَ: مَالِكٌ؟ قَالَ: وَقَعَتْ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ تَجِدُ رَبَّةَ تُغْفِقُهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهُلْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: بَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سَيِّئَتِينَ مُسْكِنَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: إِجْلِسْ وَمَكِثْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِينَا نَحْنُ عَلَى ذِلِّكَ أَتَيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْقِ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرْقُ الْمَكْتُلُ الصَّحْمُ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: خُذْ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ . فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعْلَى أَفْقَرْ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَبَنِيَّا بِرِيدُ الْحَرَّيَّيْنِ أَبْلُي بَيْتَ أَفْقَرْ مِنْ أَبْلِي بَيْتِي. فَضَحِّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَأَ أَنْيَابُهُ تُمَّ قَالَ: أَطْعَمْ أَبِيكَ - (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں توہلاک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تجھے کیا ہوا؟ اُس نے کہا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ حضور نے دریافت فرمایا: کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے جسے تو آزاد کر دے؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پر قادر ہو؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ ساٹھ مسکین آدمیوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا: اچھا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑا ٹوکرالا یا گیا جس میں کھوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے مسئلہ پوچھا تھا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لے جا وور صدقہ کر دے۔ (یعنی کفارے کے طور پر اس سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلادے) اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں یہ کسی ایسے شخص کو لے جا کر کھلاؤں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو، اور خدا کی قسم مدینے کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے بڑھ کر تو کوئی فقیر ہے نہیں۔ حضور اس پر ہنس دیئے۔ یہاں تک مہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچلیاں نمودار ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ یہ اپنے ہی بال پھوں کو کھلادو۔ ”(متفق علیہ)

اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوئے:

ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایک آدمی اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے اور قصد آرزو زہ توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔۔۔۔۔ پہلا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر آدمی یہ کفارہ ادا کر سکتا ہو تو اسے یہی کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ کفارہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس صورت میں دوسرا کفارہ یہ ہے کہ وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اس طرح کہ نیچے میں چھوڑے نہیں۔ اگر وہ اس پر بھی قادر نہ ہو تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سالٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے مراد دونوں وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ اور اس طرح کا کھانا کھلانا جیسا کہ آدمی خود کھاتا ہے۔

یہاں تک کہ تو مسئلے کی عمومی نوعیت تھی۔ اس کے بعد ایک خاص شکل سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں میں سے کسی پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اس چیز کا تعین بھی پیش نظر حدیث سے ہوتا ہے۔ جب سائل نے کہا کہ میں تو قینوں صور توں میں کفارہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالِ زکوٰۃ میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اس شخص کی مدد فرمائی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بیت المال سے اس طرح کے لوگوں کی مدد کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی کسی غلطی کا مرتكب ہو جائے جس سے اس نوعیت کا شدید کفارہ لازم آ جاتا ہے اور وہ یہ کفارہ ادا کرنے پر قادر بھی نہ ہو تو اس کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ یا تو یہ کہ وہ اس وقت تک انتظار کرے جب تک کہ اس کو ان قینوں چیزوں میں سے کسی ایک کی قدر حاصل ہو جائے (اور ہو سکتا ہے کہ اسی انتظار میں اس کی عمر گزر جائے) یا یہ کہ بیت المال سے اس کی مدد کی جائے، یا کچھ دوسرے نیک لوگ اس کی مدد کریں۔ معلوم ہوا کہ مالِ زکوٰۃ اس چیز پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح کسی ایسے مفترض کا فرض بیت المال سے ادا کیا جاسکتا ہے جو خود فرضہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو، اسی طرح اگر کسی شخص پر اس طرح کے کفارے لازم آگئے ہوں تو ان کفاروں کے ادا کرنے میں مالِ زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جاسکتی ہے۔ اگر بیت المال موجود نہ ہو تو جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ مالِ زکوٰۃ سے اس کی مدد کریں تاکہ ان کا ایک مسلمان بھائی جس پیچیدگی میں پھنس گیا ہے اس سے نکل جائے۔

فقہاء کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ یہ کفارہ (جس کی تفصیل اپر مذکور ہوئی ہے) آیا اس صورت میں واجب آتا ہے جب کہ مباشرت روزہ توڑنے کی وجہ سے بنی ہو یا اس صورت میں بھی واجب آتا ہے جب کہ آدمی قصد آگھاپی لے۔ فقہاء کا ایک گروہ یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ کفارہ صرف اس صورت میں لازم آتا ہے جب کہ مباشرت روزہ توڑنے کا سبب ہتی ہو۔ دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ اگر آدمی نے کسی طرح بھی قصد آرزو زہ توڑ دیا ہے تو اس سے یہی کفارہ لازم آتا ہے امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے نزدیک تمام شکلوں میں جب کہ روزہ توڑا جائے کفارے کی یہی شکل ہے۔

اب آگے اس حدیث میں ایک بہت ہی خاص بات آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل نے یہ کہا کہ مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی مفلس نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ کھجور یں لے جا اور اپنے ہتی اہل و عیال پر صدقہ کر دے۔ اس سلسلے میں بعض فقہاء کا قول یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف اسی شخص کے لیے خاص تھا، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن میر اخیال یہ ہے (واللہ اعلم بالصواب) کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت اور فراغی رکھی ہے اس میں کسی اور کو تنگی کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں ہے کہ اسے خود کھانے کو نصیب نہیں ہے اور آپ اس کے ہاتھ میں مال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے غریبوں پر صدقہ کر دے تو سوال یہ ہے کہ آخر خود اسے یہ مال لینے کا حق کیوں نہیں پہنچتا۔ یہ صدقہ تو وہ شخص

دے جس کے پاس کم از کم کھانے کو تو موجود ہو۔ لیکن جو اس فکر میں ہے کہ رات کو میرے پچھے کھائیں گے کیا اور آپ اس کے ہاتھ سے سماں مسکینوں کو کھانا کھلواتے ہیں تو یہ بات یقیناً محل نظر ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں شریعت کا منشاء یہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ایک مسئلہ شرعی معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل جذباتی نہیں تھا اور آپ کے ہر فعل سے دراصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے حدود کیا ہیں اور اس کی حقیقی روح کیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص سے کوئی ایسا قصور ہو جائے جس سے کفارہ لازم آتا ہو اور وہ شخص فی الواقع خود صدقے کا مستحق ہو تو بیت المال سے اس کی مدد کرنا جائز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ اس مال کا مالک بنادیا جائے اور پھر اس سے کہا جائے کہ تجھے صدقہ کرنے کا پورا حق ہے۔ لیکن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو خود ہی صدقے کا مستحق ہے تو تو خود بھی اسے استعمال کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

## الفَصْلُ الثَّانِي

(49) عن عائشة: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُقْتَلُهَا وَبُنُوَّهُ صَلَّمَ وَيَصُمُ لِسَانَهَا. رَوَاهُ أُبُو دَاوُدٍ 1

روزے کی حالت میں بیوی سے میل جوں کا مسئلہ:

(50) وَعَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّاعِمِ فَرَخْصَ لَهُ وَأَنَّهُ آخِرُ فَسَالَهُ فَهَاهُ إِنَّا الَّذِي رَحَصَ لَهُ شَيْءٌ وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌ. رَوَاهُ أُبُو دَاوُدٍ

حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ایک روزہ دار کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ اختلاط (یعنی میل جوں) کی اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ پھر ایک دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بھی یہی دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس چیز سے منع کر دیا۔۔۔۔ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ سن رسیدہ آدمی تھا اور جس کو منع کیا وہ جوان آدمی تھا۔ ” (ابوداؤد)

اس حدیث کے متن میں بیوی کے ساتھ میل جوں اور اختلاط کے لیے مُبَاشَرَة کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ احادیث میں یہ لفظ اس سلسلے میں متعدد مقامات پر آیا ہے جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے اور اردو سے عربی سمجھتے ہیں وہ اس لفظ کو بہانہ بنایا کہ احادیث کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھوان احادیث میں کیا غلط سلط چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ لوگ بلا تحقیق اس طرح کے طوفان کھڑے کرتے رہتے ہیں اور در حقیقت اپنی جہالت کو حدیث رسول کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کی غلط فہمی کی بنیاد دراصل یہ ہے کہ اردو میں لفظ مباشرت صرف جنسی عمل سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے حالانکہ عربی میں ایسا نہیں ہے۔

مباشرة کا لفظ بآشَرَ سے ہے جس کے معنی ہیں کسی کام کو خود کرنا۔ ایک عرب جب یہ کہے گا کہ دیکھو فلاں کام دوسرا پر نہ چھوڑو بلکہ خود اس کام کو کرو تو وہ یہ کہے گا کہ افْعُلُهُ مُبَاشَرَة (یعنی اس کام کو خود کرنا) یا گروہ یہ کہنا چاہے گا کہ میں خود وہاں گیا تھا، کسی کو بھیجا نہیں

<sup>1</sup> مولانا نے محترم نے درس میں اس حدیث کی تعریف نہیں فرمائی۔ (مرتب)

تحاتوہ یہ کہے گا دھبٹ مباشرۃ (میں خود گیا تھا) اسی طرح اس لفظ کے ایک معنی عورت اور مرد کی باہمی جسمانی قربت کے بھی ہیں جس میں جنسی عمل شامل نہیں۔۔۔۔۔ یہاں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ جس آدمی نے آکر مسئلہ پوچھا تھا اس نے دراصل یہ پوچھا تھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اختلاط کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی کیونکہ وہ سن رسیدہ آدمی تھا۔ دوسرے نے آکر پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے منع کر دیا کیونکہ وہ جوان آدمی تھا۔۔۔۔۔ ظاہر ہاتھ ہے کہ سن رسیدہ آدمی پر جذبات کا اتنا غلبہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے لیکن جوان آدمی بسا اوقات ضبط نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ روزہ توڑ بیٹھے اور ایک مشکل میں مبتلا ہو جائے۔ چنانچہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ احتیاط برتبے اور احتیاط سے پرہیز کرے۔

اس حدیث میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی کہ اگرچہ یہ کام جائز ہے اور یہ آخری حد ہے جس تک آدمی روزے کی حالت میں جا سکتا ہے لیکن جو آدمی ضبط نہ کر سکتا ہو اُسے چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز کرے۔ البتہ جو شخص اپنے اوپر پورا قابو رکھتا ہو وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

### خود بخود قے آجائے سے روزہ نہیں ٹوٹا:

(51) وَعَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَبُرُّوْ صَائِئِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَصَاءُ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَإِنْ مَاجَهُ وَالْدَّارِمِيُّ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ عَرِيفٌ لَا نَعْرِفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُوسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْبُخَارِيِّ لَا أَرَاهُ مَحْنُوطًا .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو قے خود آجائے اس حالت میں کہ وہ روزے سے ہو تو اس پر کوئی قضا لازم نہیں، اور جو شخص عمدائے قے کرے اُسے چاہیے کہ قضا ادا کرے۔ (ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی) اگر کسی شخص کو خود بخود قے آجائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے عمدائے روزہ نہیں توڑا ہے اس لیے اس کا حکم وہی ہے جو بھولے سے کھا لینے والے کا ہے۔ بھولے سے اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر بھی کھالے تب بھی اس پر کوئی قضا نہیں۔ قضا صرف اس صورت میں ہو گی جب کہ اس نے عمدائیا کیا ہو۔ اسی طرح کوئی شخص اگر قصد اے قے کرے تو اس صورت میں اس پر قضا لازم آئے گی۔ لیکن اگر اس کے پیٹ میں کوئی ایسی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اُسے خود بخود قے آجائے تو چاہے۔ قے پوری طرح سے منہ بھر کر آئے یا کئی مرتبہ آئے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ قضا لازم آئے گی۔

### قے آجائے پر نفلی روزہ کھول لینا جائز ہے:

(52) وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ . قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ . قَالَ: صَدَقَ وَأَنَا صَبِيْثُ لَهُ وَضَوءُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْتِرْمِذِيُّ وَالْدَّارِمِيُّ

جناب معدان بن طلحہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور روزہ افطار کر لیا۔ معدان اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر دمشق کی مسجد میں میری ملاقات حضرت ثوابن رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے کہا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے

کر کے روزہ افطار کر لیا تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر خود پانی ڈالا تھا اور کلی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیا تھا۔ (ابوداؤد، ترمذی، دارمی) واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزہ نفلی تھا۔ حضور کو کوئی ایسی تکلیف لاحق ہوئی ہو گی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ افطار کرنا پڑا۔

### روزے کی حالت میں مساوک کرنا جائز ہے:

(53) وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أَحْصَى بِتَسْوِيْكٍ وَبُوْصَامِمٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مساوک کرتے دیکھا ہے کہ میں اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ ” (ترمذی، ابوداؤد) معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں مساوک کی جاسکتی ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

### روزے کی حالت میں سرمه لگانے کا مسئلہ:

(54) وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اشْتَكَيْتُ عَيْنَيِّنِي أَفَكُثْجُولُ وَأَنَا صَامِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُ بِالْقَوْيِ وَأَبُو عَائِدَةَ الرَّاوِي يَضُعِفُ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں روزے کی حالت میں سرمه لگاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں لگاؤ۔ ” (ترمذی) یہ روایت ضعیف ہے۔ تاہم اگر اس کو صحیح مانا جائے تو اس سے صرف اتنی گنجائش نکلتی ہے کہ سرمه لگایا جاسکتا ہے کیونکہ وہ ایک ذرا سی چیز ہوتی ہے لیکن اس سے یہ استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ آنکھ میں باقاعدہ دوائی پکانا بھی جائز ہے کیونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی رنگین دوآنکھ میں ڈالیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا رنگ آپ کے حلق میں آجائے گا اور تھوکنے سے تھوک بھی اسی رنگ کا نکلے گا۔

آنکھ کے بر عکس کان میں دو اڑالنا جائز ہے کیونکہ کان اور حلق کے درمیان ایسا پردہ ہوتا ہے جس سے دو انہیں گزر سکتی۔ اگر کان کو دوائے بھر بھی دیا جائے تب بھی کان کے پر دے سے دو اکی ذرا سی نبی بھی حلق میں نہیں پہنچے گی، جب کہ آنکھ میں دو اڑالنے سے فوراً حلق میں پہنچ جاتی ہے۔ چونکہ بعض لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کان چونکہ گہرا ہوتا ہے اور اس پر بظاہر جوف کا اطلاق ہو سکتا ہے اس لیے میں دو اڑالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن آنکھ میں دو اڑالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ معاملہ اس کے بر عکس ہے۔

اصل میں یہ مسئلہ فقہ کا نہیں ہے بلکہ طب کا ہے۔ اگر ایک آدمی علم الاعضاء (فزیالوجی) سے واقف ہو تو اسے بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔

### روزے کی شدت کم کرنے کے لیے نہانا اور سرپر پانی ڈالنا جائز ہے:

(55) وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَزْجِ يُصْبِطُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَبُوْصَامِمٍ مِنَ الْعَطْشِ أَوْ مِنَ الْحَرَّ . رَوَاهُ مَالِكٌ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ”میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرج<sup>1</sup> کے مقام پر دیکھا کہ آپ سر پر پانی ڈال رہے ہیں اور اس وقت آپ روزے سے تھے، پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے۔“ (مالک، ابو داؤد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اپنے سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز سے روزے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی چنانچہ اگر آپ پانی کے تب میں اس طرح بیٹھ رہیں کہ آپ کا سارا جسم اس میں بھیگتا رہے اور آپ سر پر بھی بار بار پانی ڈالتے رہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چاہے یہ عمل کتنی دیر تک ہوتا رہے۔ یہ توظاہر ہے کہ پانی میں بیٹھ رہنے یا نہانے سے گرمی کی تکلیف اور پیاس کی شدت میں کمی واقع ہو گی لیکن یہ روزہ توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ حلق سے پانی کا ایک قطرہ بھی گزار دیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

### روزے کی حالت میں پچھنے لگوانے کا مسئلہ:

(56) وَعَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى رَجُلًا بِالْبَقِيعِ وَبُوَّ يَحْتَجِمْ وَبُوَّ آخِذٌ يَبْدِي لِشَمَانِي عَشْرَةً خَلْثَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: أَفْطِرْ الْحَاجِمَ وَالْمَخْجُومَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجْهَ وَالْمَارِبِيُّ .

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے مقام پر تشریح لے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص پچھنے لگوار ہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میراہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور اس دن رمضان کی اٹھارہ تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھنے لگانے والے اور پچھنے لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، دار می)

اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزے کی حالت میں پچھنے لگائے تھے، لیکن یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھنے لگانے والے اور پچھنے لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کس حدیث کو قبول کیا جائے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو قبول کیا ہے اور اسی کی بنیاد پر اس بات کے قائل ہیں کہ روزے کی حالت میں پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو اس بنیاد پر قبول کیا ہے کہ پچھنے لگوانے میں اسی بات کا امکان ہوتا ہے کہ جس شخص کے پچھنے لگائے جائیں اس کو خون نکلنے سے اتنی کمزوری لاحق ہو جائے کہ وہ آخر کا روزہ کھولنے پر مجبور ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص سینگی سے خون چوتا ہے اس کے لیے بھی اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ خون چوتے چوتے کہیں کوئی قطرہ اس کے حلق میں نہ چلا جائے اور وہ روزہ توڑ بیٹھے۔

لیکن اس حدیث کے بارے میں دوسری روایات سے جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں ان کے مطابق جس واقعہ کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے وہ فتح مکہ کے زمانے کی بات ہے اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھنے لگواتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے، جو یقیناً بعد کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے فقهاء کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے

<sup>1</sup> اسے اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے۔

کہ پونکہ اس معاملے میں حضرت عبد اللہ بن عباس کا مشاہدہ ترتیب زمانے کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بعد کے عمل کو ظاہر کرتا ہے اس لیے اس معاملے میں آخری حکم یہ ہے کہ پچھنے لگنے سے روزہ نہیں ٹوتا۔ امام ابو حنفیہ، امام مالک اور امام شافعی کا یہی مسلک ہے۔

### ساری عمر کے روزے بھی رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے:

(57) وَعَنْ أَبِي بُنْيَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غِيرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرْضٍ لَمْ يَفْضِ عَنْهُ صَفُومُ الدَّيْرِ كَلِيلٌ وَإِنْ صَامَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِزَمْدِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْدَارِمِيُّ وَالْبَخَارِيُّ -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا بغیر کسی رخصت (معقول عذر) کے اور بغیر کسی مرض کے تو اگر وہ ساری عمر کے روزے بھی رکھے تو بھی وہ اس کی قضا نہیں ہو سکتے۔ (احمد، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، دارمی، بخاری)

یہ رمضان کے روزے کی قضائاً شرعی حکم نہیں ہے کیونکہ قضا روزہ اگر کوئی شخص رکھے گا تو وہ اس کا ادا ہو جائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے عمر بھر کے روزے بھی آج اور مرتبے کے لحاظ سے اُس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے جو اس نے رمضان میں جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو۔ کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنا اور بات ہے کیونکہ اس صورت میں تو آدمی قضا روزہ رکھ سکتا ہے اور یہ چیز قابل موادخہ نہیں ہے لیکن کسی شرعی عذر کے بغیر جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا ایسا ہے کہ پھر ساری عمر کے روزے بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔

یہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ شریعت میں بعض چیزیں تو قانونی حیثیت رکھتی ہیں اور بعض اخلاقی۔ قانونی حیثیت تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑا ہو تو اس پر قضا لازم آئے گی اور قانون کا تقاضا فقط اتنا ہے کہ وہ قضا روزہ رکھے۔ لیکن اس کے روزہ قضا کرنے کی اخلاقی حیثیت اس حدیث کے مطابق ہے کہ ایک روزہ نہیں بلکہ عمر بھر کے روزے بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے جو اس نے رمضان کے زمانے میں جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو۔

### اصل مطلوب روزے کی ظاہری شکل نہیں بلکہ اس کی حقیقی روح ہے:

(58) وَعَنْ أَبِي بُنْيَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَاءُ وَكُمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزوں سے سوائے یہاں کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کتنے ہی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی اس عبادت سے رات کی نیند سے محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ (دارمی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو ان کی ظاہری حیثیت ہے، یعنی وہ ظاہری شکل جس کے مطابق وہ انجام دیے جاتے ہیں اور دوسرا ان کی باطنی حیثیت ہے، یعنی ان کی اصل حقیقت اور روح جو ان سے مطلوب ہوتی ہے۔ اگر آپ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو فرض تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ اس کے بعد

دوسری چیز ہے اس عمل کی حقیقت تو اس کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے۔ روح اگر آدمی کے جسم سے نکل جائے تو دیکھنے کو تو اس کا پورا جسم جوں کاتوں موجود ہوتا ہے اور بظاہر کوئی چیز اُس میں سے کم نہیں ہوتی) لیکن فرق یہ واقع ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ زندہ تھا اور اب زندہ نہیں ہے جب تک وہ زندہ تھا تو آپ اُسے دفن کرنے کا خیال تک نہیں کر سکتے تھے لیکن اب وہ مردہ ہے تو آپ اسے اپنے پاس رکھنے کے متعلق نہیں سوچ سکتے۔ یہی تعلق ہے اعمال کی اصل حقیقت اور ان کی ظاہری شکل کے درمیان۔۔۔۔۔ پس اگر ایک آدمی عمل کی وہ شکل پوری نہیں کرتا جو شریعت نے بتائی ہے تو شریعت کی نگاہ میں اس کا وہ عمل بیکار ہے اور اگر وہ اس عمل کے اندر اس کی حقیقی روح پیدا نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کا وہ عمل خدا کے ہاں بے وزن اور بے حقیقت ہے۔

مثلاً اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا اور اس نے دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں تو اُس نے روزے کی ظاہری شکل کو تو پورا کر دیا لیکن اگر وہ دن بھر خدا کو بھول رہا اور روزے کی حالت میں ہر طرح کے ناجائز افعال کرتا رہتا تو اگرچہ اس کے متعلق یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے روزہ ہی نہیں رکھا یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا یا کسی پر بہتان لگایا تھا یا کسی کا حق مارا تھا لیکن ظاہر بات ہے کہ اس نے روزے کے اصل مقصد کو فوت کر دیا۔ اس کا روزہ ویسے ہی بے جان ہے جیسے کوئی مردہ اور بے جان وجود۔۔۔۔۔ اس طرح درحقیقت اس شخص نے اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں کیا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے اور خدا کی عبادت میں وقت گزارتا ہے تو اس کے متعلق یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے قیام نہیں کیا، یا عبادت نہیں کی لیکن اگر اس نے اپنے اس قیام میں صحیح معنوں میں رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا نہیں کی اور اپنی عبادت کی بنا اخلاص پر نہیں رکھی تو اس کا یہ عبادت کرنا اور راتوں کو کھڑا ہونا محض ایک مشینی عمل ہے جس میں کوئی جان اور روح نہیں ہے اس سے اُسے سوائے رات جگے کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

پس شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے اعمال ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی قانون کے مطابق ہوں اور ان کے اندر حقیقی روح بھی موجود ہے۔۔۔۔۔ اعمال کی یہ حقیقی روح ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی محبت، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ، اس کے حضور جواب دہی کا احساس، اس کا خوف اور اس کے احکام و قوانین کی ہمہ وقت پیروی اور ان کی بجا آوری کا خیال۔۔۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اعمال کے اندر حقیقی روح پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہ ہوں تو ظاہری عمل کی حد تک تو قانون کی پابندی ہو جائے گی اور بظاہر آدمی اس کی خلاف ورزی سے بھی نجج جائے گا لیکن اعمال کی حقیقی روح سے محروم رہے گا۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا اعمال کی کچھ قدر و قیمت نہ ہو گی۔

## الفَصْلُ الثَّالِثُ

تین چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا:

(59) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرُنَ (ص: 627) الصَّائِمُ الْحَجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْأَخْتَلَامُ .  
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزیں روزہ دار کا روزہ نہیں توڑتیں: ۱۔ پچھنے لگانا یا لگوانا۔ ۲۔ قے کا آنا اور ۳۔ خواب میں جنابت کا لاحق ہو جانا۔ (ترمذی)

اس حدیث میں قے سے مراد وہ تھے ہے جو خود خود آجائے۔ وہ قے مراد نہیں جو آدمی کسی ضرورت یا تکلیف کی بنا پر خود منہ میں انگلی ڈال کر یا کسی دوسرے طریقے سے کرے۔ ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم آتی ہے۔

### روزے کی حالت میں پچھنے لگوانے کی صحیح شرعی حیثیت:

(60) وَعَنْ ثَابِتِ الْبَنَاتِيِّ قَالَ: سُبْلِيلُ أَسْسُ بْنُ مَالِكٍ: كُثُمْ تَكْرُبُونَ الْجِمَاءَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَبْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الْضَّعْفِ. رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ

جناب ثابت بناتی رحمہ اللہ (جو تابعی ہیں) بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ (یعنی صحابہ کرام) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں روزہ دار کے لیے پچھنے لگوانے کو مکروہ سمجھتے تھے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ نہیں، البتہ اس وجہ سے پرہیز کرتے تھے کہ اس سے ضعف لاحق ہو جاتا ہے۔ (بخاری)

معلوم ہوا کہ چونکہ پچھنے لگوانے سے کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اور اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی ناقابل برداشت تکلیف ہو جائے جس سے روزہ توڑنا پڑ جائے تو اس بنا پر صحابہ کرام پچھنے لگوانے سے پرہیز کرتے تھے لیکن وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ بجائے خود پچھنے لگوانے سے روزے میں کوئی خرابی واقع ہو جاتی ہے۔

بعض احادیث میں چونکہ یہ ذکر آیا ہے کہ پچھنے لگوانے سے پچھنے لگوانے اور لگانے والے دونوں کارروزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے تابعین نے صحابہ کرام سے ملاقاتیں کر کے یہ معلومات حاصل کیں کہاں معاملے میں فی الواقع شرعی پوزیشن کیا ہے۔ یہ حدیث اسی چیز پر روشنی ڈالتی ہے۔

### روزے کی حالت میں پچھنے لگوانے کے متعلق حضرت عبد اللہ بن عمر کا عمل:

(61) وَعَنِ الْبَخَارِيِّ تَعْلِيقًا قَالَ: كَانَ أَبْنَى عُمَرَ يَحْتَجِجُ وَبُوْ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِجُ بِاللَّيْلِ  
امام بخاری تعلیقاً (یعنی سند کے حوالے کے بغیر) بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) کا طریقہ یہ تھا کہ وہ روزے کی حالت میں پچھنے لگوایا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا اور ررات کے وقت کے وقت پچھنے لگوانے لگے۔ (بخاری)  
امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کسی مسئلے کی وضاحت میں کسی صحابی یا تابعی کا کوئی فعل بغیر سند کے نقل کر دیتے ہیں۔ ایسے اقوال و افعال کو باقاعدہ احادیث میں شمار نہیں کیا جاتا لیکن ان کا ایک وزن ضروری ہے کیونکہ امام بخاری محقق آدمی تھے اور انہوں نے تقليقاً بھی جو کچھ کہا وہ بے حقیقت نہیں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر روزے میں پچھنے لگوانا مکروہ ہوتا یا اس سے روزے میں کوئی خرابی واقع ہوتی تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایسا نہ کرتے۔ بعد میں انہوں نے دن کو پچھنے لگوانے کا طریقہ چھوڑ کر ررات کو پچھنے لگوانے کا طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ عمر میں اضافے سے وہ روزے میں دن کے وقت پچھنے لگوانے سے کمزوری محسوس کرنے لگے تھے۔

### کلی کرنے کے بعد تھوک نگلنے اور مصطگی وغیرہ چبانے کا مسئلہ:

(62) وَعَنْ عَطَاءِ قَالَ: إِنْ مَضْمِضَ ثُمَّ أَفْغَعَ مَا فِي فَيْهِ مِنَ الْمَاءِ لَا يُضِيرُهُ أَنْ يَرْدَدِ رِيقَهُ وَمَا يَقْعَ في فَيْهِ وَلَا يَمْضِي الْعُلَكُ فَإِنْ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعُلَكَ لَا أَقْوُلُ: إِنَّهُ يُعْطَرُ وَلَكِنْ يُهْبَى عَثَهُ رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ فِي تَرْجِمَةِ بَابِ

جناب عطاء رحمہ اللہ (جو مشہور تابعی اور بہت بڑے فقیہ ہیں) مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص (روزے کی حالت میں) فلی کرے اور پھر منہ سے پانی بالکل نکال دے تو اس کے لیے اپنا تھوک لگنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور وہ بھی کہ جو کچھ اس کے منہ میں نظر رہا ہو (یعنی اس پانی کا اثر)۔ اور وہ (روزے کی حالت میں) مصطلی نہ چبائے کیونکہ اگر اس کا اثر اس کے تھوک میں رہا اور اس نے تھوک لگاتو میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس چیز سے روکا جاتا ہے۔ (بخاری)

گزشتہ روایت کی طرح اسے بھی بطور حدیث کے نہیں بلکہ جناب عطا کے ایک فتوے کے طور پر نقل کیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آدمی روزے میں فلی کرے اور منہ سے پانی نکال دینے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہے تو تھوک لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ ظاہر بات ہے کہ جب آدمی فلی کرتا ہے تو پانی سے اس کے منہ میں کچھ تری تو پیدا ہوتی ہے اور پانی پوری طرح نکال دینے کے باوجود اس کا کچھ نہ کچھ اثر تھوک کے ساتھ اندر جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص قصد کچھ پانی منہ میں بچا کر رکھے اور اسے تھوک کے ساتھ نکل لے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔

پھر یہاں مصطلی نہ چبانے کے بارے میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اسی سے مخجن یا ٹوٹھ پیسٹ وغیرہ کا حکم بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ فرض کجیے کہ جس طرح ایک آدمی منہ میں پانی لے کر نکال دیتا ہے۔ اسی طرح وہ مخجن لگاتا ہے یا ٹوٹھ پیسٹ استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد پوری کوشش کے ساتھ منہ کو خوب صاف کر لیتا ہے تو اس پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا (جیسا کہ اوپر مصطلی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے) لیکن آدمی کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔

پانی تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تھوک کے ساتھ مل کر پوری طرح سے نکل جاتا ہے لیکن دوسری چیزیں چونکہ کچھ نہ کچھ گاڑی ہوتی ہیں اس لیے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ پوری کوشش کے باوجود منہ میں لگی رہ جائیں اور روزے میں خرابی کا باعث بنیں۔ البتہ مسواک کا معاملہ اس سے مختلف ہے کیونکہ مسواک کے متعلق تو یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں مسواک فرمایا کرتے تھے۔ پھر اگرچہ مسواک بھی کچھ نہ کچھ چبائی جاتی ہے اور اس کا رس نکلتا ہے لیکن اس رس میں ایسا گاڑھا پن نہیں ہوتا ہے جس کے منہ میں چھٹ کر رہ جانے کا خطرہ ہو، اس لیے مسواک کے بارے میں کسی طرح کا تذبذب لاحق نہیں ہوتا۔ البتہ دوسری چیزوں کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں۔ اسی لیے مصطلی کی مثال دی گئی ہے کیونکہ اس میں ایک طرح کا گاڑھا پن ہوتا ہے۔ ایسی ہی کچھ صورت مخجن یا ٹوٹھ پیسٹ کی بھی ہوتی ہے، اس لیے ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔<sup>1</sup>

## باب صَوْمُ الْمُسَافِرِ

اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنے کے احکام کیا ہیں۔

### الفَصْلُ الْأَوَّلُ

سفر کی حالت میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں جائز ہیں:

<sup>1</sup> درس کے بعد ایک سوال کے جواب میں بھی مولانا محترم نے وضاحت فرمائی کہ روزے کی حالت میں ٹوٹھ پیسٹ کا استعمال مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ مسواک سے مختلف چیز ہے۔ (مرتب)

(63) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلَّهُبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصَّيَامِ.  
فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطُرْ - (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمرو وسلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر کی حالت میں روزہ رکھ لوں؟۔۔۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا جی چاہے تو روزہ رکھ لو، اور نہ جی چاہے تو نہ رکھو۔ (متفق علیہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ روایت بیان کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت بھی فرمادی ہے کہ سائل کیسا آدمی تھا کیونکہ وہ بہت بڑے درجے کی فقیہ تھیں اس لیے قانونی بار کیاں ان کی نگاہ میں ہوتی تھیں۔ چنانچہ انھوں نے واضح فرمادیا کہ حضرت حمزہ جنھوں نے سوال کیا تھا، کثرت سے روزے رکھنے کے عادی تھے۔ یہاں ان کا یہ سوال نظری روزے کے بارے میں نہیں تھا بلکہ فرض روزے کے بارے میں تھا کہ اگر رمضان میں مجھے سفر پیش آجائے تو کیا حالتِ سفر میں مجھے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے سفر میں روزہ رکھو چاہے نہ رکھو۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس وضاحت سے کہ حضرت حمزہ بن عمرو کثرت سے روزہ رکھنے کے عادی تھے دراصل یہ بات بتائی ہے کہ اگر ایک آدمی سال کے دوران میں بکثرت روزے رکھنے کا عادی ہو تو اسے عام آدمیوں کی بہ نسبت روزے کی سختی کو برداشت کرنے کی زیادہ عادت اور مشق ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا آدمی حالتِ سفر میں بھی روزہ رکھے تو وہ دورانِ سفر میں روزے سے پیش آنے والی سختی کو اس آدمی کی بہ نسبت زیادہ آسانی سے برداشت کر لیتا ہے جو صرف رمضان ہی میں روزے رکھنے کا عادی ہو۔

حضرت عائشہ کی اس وضاحت کی روشنی میں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس اختیار میں ایسی مساوات نہیں ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا یا چھوڑنا دونوں بالکل مساوی درجے کے کام ہوں، بلکہ اس میں یہ دیکھنا ہو گا کہ کس آدمی میں تخلی کی زیادہ طاقت ہے اور کس آدمی میں کم ہے۔ اگر کسی آدمی میں تخلی کی طاقت زیادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھے لیکن اگر کسی آدمی میں یہ طاقت کم ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔

اسی طرح یہ بات سفر کے حالات پر بھی موقوف ہے کہ کیسے حالات میں آدمی کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے اور کیسے حالات میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ فقهاء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔۔۔ امام مالک، امام شافعی اور امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کو افضل قرار دیتے ہیں اور نہ رکھنے کو اس سے کم درجے کا فعل قرار دیتے ہیں۔ بعض دوسرے فقهاء روزہ نہ رکھنے کو افضل قرار دیتے ہیں اور بعض نے وہی تصریح کی ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ یہ چیز آدمی اور اس کے حالات اور سفر کی نوعیت پر منحصر ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنے یا چھوڑنے میں سے کون سی صورت افضل ہے اگر ایک آدمی کی قوت برداشت زیادہ ہو اور وہ ایسے حالات میں سفر کر رہا ہو جن میں بہت زیادہ مشقت بھی پیش آنے کا خدشہ نہ ہو تو اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہو گا۔ اس کے بر عکس اگر ایک آدمی کی قوت برداشت کم ہو اور اسے سفر میں بھی ایسے حالات پیش آنے کا خطرہ ہو جن میں روزے کی سختی برداشت کرنا مشکل ہو جائے تو اس صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا ہی صحیح ہے۔

**سفر میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے والے ایک دوسرے پر اعتراض نہ کریں:**

(64) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: عَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ عَشْرَةِ مَصَّـتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمِنْ صَـامَ وَمِنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّـامُ عَلَى الْمَفْطِرِ وَلَا الْمَفْطُرُ عَلَى الصَّـامِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کی سولہ تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ کے لیے سفر پر نکلے تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو روزے سے تھے اور کچھ ایسے تھے جو روزے سے نہیں تھے۔ لیکن نہ تو روزہ داروں نے روزہ نہ رکھنے والوں کو ملامت کی اور نہ روزہ نہ رکھنے والوں نے روزہ داروں پر اعتراض کیا۔ (مسلم)

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا یا روزہ رکھتا ہے تو اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی ایسے شخص کو ملامت کرے جس نے اس کے بر عکس عمل کیا ہے، کیونکہ جب شریعت میں دونوں کاموں کا اختیار دیا گیا ہے تو کسی کو کسی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔

اس معاملے میں شریعت کی اس باریکی کو سمجھ لینا چاہیے جس کی بنابر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔۔۔۔۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شریعت کی رو سے دو مقابل کام کرنے اختیار رکھتا ہو اور وہ دونوں برابر کے کام ہوں تو اس صورت میں وہ جو کام بھی کرے اس پر کسی شخص کو اس کے اوپر اعتراض کرنے یا اسے ملامت کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس طرح درحقیقت وہ شریعت کے مزاج میں بے اعتدالی کو داخل کرنے بلکہ شریعت سازی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ شریعت نے تو لوگوں کو برابر کا اختیار دیا تھا لیکن وہ ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دے کر دوسروں کو ملامت کرنے پر اترت آتا ہے۔ اس طرح لوگوں پر بے جا سختی کر کے جو رعایت اللہ تعالیٰ نے انھیں دی تھی اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔۔۔۔۔ یہ بات اگرچہ دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی بنابر ملامت کر رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کے اندر اعتدال پیدا کرنے اور ان میں شریعت کے احکام کی پابندی اور اطاعت پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کر اگر کوئی شخص خدا کی دی ہوئی رعایت سے جائز طور پر فائدہ اٹھا رہا ہے تو کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

### اگر برداشت سے باہر ہو تو سفر میں روزہ نہ رکھا جائے:

(65) وَعَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زَحَاماً وَرَجُلًا قَدْ طَلَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: صَـامِ. قَـالَ: لَيْسَ مِنَ الْإِلَـرَ الصَّـومُ فِي السَّـفَرِ۔ (متنقٌ عليه)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے اور ایک آدمی پر سایہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ایک روزہ دار ہے (جس کی حالت روزے کی وجہ سے غیر ہو رہی ہے) اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفر میں (ایسا) روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ (متفق علیہ)

جن فقهاء کے نزدیک سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے ان کا استدلال اس حدیث سے ہے۔ لیکن اس حدیث سے اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں ہر حالت میں سفر میں روزہ رکھنے کو نیکی کے خلاف کام قرار دیا ہے یا آپ کا

ارشاد خاص حالات کے ساتھ مخصوص ہے۔۔۔۔۔ یہاں خاص حالت خود سامنے موجود نظر آتی ہے کہ ایک آدمی روزے کی تکلیف سے نہ ہال ہو گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سخت گرمی کا زمانہ تھا اور سفر بھی دن کے وقت کیا گیا تھا اس لیے اس حالت میں اس سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ گر گیا۔ چنانچہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس پر سایہ کرنے لگے۔ اس صورتِ حال کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ سفر میں اس حال کا روزہ رکھا جائے۔۔۔۔۔ یعنی اگر کوئی شخص سفر میں روزہ رکھے تو وہ حالات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے اور یہ دیکھے کہ آیا میری طاقت ایسی ہے کہ میں سفر کی تکلیف برداشت کر سکوں گا اور یہ بھی کہ سفر میں کوئی ایسی غیر معمولی سختی پیش آنے کا خدشہ تو نہیں جو برداشت سے باہر ہو جائے۔ چنانچہ جن حالات میں کوئی شخص اپنے اندر ایسی قوتِ برداشت بھی محسوس نہ کرتا ہوا اور سفر بھی زیادہ سخت نظر آ رہا ہو تو اس کا روزہ رکھنا اور پھر تکلیف اٹھانا کوئی نیکی نہیں ہے۔

### مشکل سفر در پیش ہو تو روزہ نہ رکھنا افضل ہے:

(66) وَعَنْ أَسِّينَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فِيمَا الصَّائِمُ وَمَنِ الْمُفْطَرُ فَرَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمِ حَاجَةٍ فَسَقَطَ الصَّوَامُونَ وَقَامَ الْمُفْطَرُونَ فَصَرَبُوا إِلَيْنَا وَسَقَوْا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَبَّبُ الْمُفْطَرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ (مُتَّقِّنٌ عَلَيْهِ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کوئی ہم میں سے روزے سے تھا اور کوئی روزے سے نہیں تھا۔ ایک سخت گرمی کے دن ہم نے ایک مقام پر جا کر پڑا تو روزہ دار توہاں جا کر لیٹ گئے اور جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خیسے ایسی تادہ کیے اور سواری کے اونٹوں کو پانی پلایا۔۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج روزہ نہ رکھنے والے اجر لوٹ لے گئے۔ (متفق علیہ)

اس حدیث کی رو سے پڑا اس قول کے حق میں جھک رہا ہے جس کے مطابق حالتِ سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ مذکورہ سفر میں چونکہ سخت گرمی کا زمانہ تھا اس لیے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ روزے کی شدت برداشت نہ کر سکے اور جاتے ہیں پڑ گئے۔ ان کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ اٹھ کر خیسے لگاتے اور سواریوں کو پانی پلاتے۔۔۔۔ چنانچہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے دوسروں کے آرام کا سامان کیا۔۔۔۔ اگر وہ بھی روزے سے ہوتے تو وہ بھی سب کے سب پڑ جاتے اور نہ کوئی خیسہ لگتا اور نہ جانوروں کو پانی پلاتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج وہ لوگ اجر لوٹ لے گئے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اور انہوں نے لوگوں کے لیے آرام و آسانی کا سامان کیا۔

اب غور کیجیے کہ دورانِ سفر میں روزے کے جواز یا رخصت کے متعلق جواحدیث اب تک گزری ہیں ان میں دونوں طرف کے دلائل میں ایسا وزن ہے کہ کوئی شخص نہ تو پورے زور کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ حالتِ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے اور نہ پورے زور کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہ رکھنا افضل ہے۔ بس یوں سمجھئے کہ بات دراصل آدمی کی اپنی صواب دید پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ اپنے حالات کا خود اندازہ کر کے یہ رائے قائم کرے کہ آیا وہ روزے رکھے یا نہ رکھے۔ کام دونوں یکساں حیثیت کے ہیں۔ یہ خیال دل میں ہر گز نہ رہنا چاہیے کہ اگر سفر میں روزہ نہ رکھا تو اجر کم ہو جائے گا اور بعد میں قضا کرنے کی صورت میں اتنا ثواب نہیں ملے گا جو رمضان کے دنوں میں ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کا اختیار دیا ہے اور اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لی جائے تو اس امر کے شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ بعد میں قضا کا روزہ رکھنے کی صورت میں اس کا وہ اجر نہیں ہو گا جو

رمضان کے زمانے میں رکھنے کا ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ رمضان کے اندر جو روزہ بلاوجہ چھوڑ دیا گیا ہواں کا معاملہ تو یکسر مختلف ہے کیونکہ اس کی ایک قضا تو کیا آدمی ساری عمر بھی قضا ادا کرتا رہے تو اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں معاملہ بالکل دوسرا ہے اور اس صورت میں روزہ قضا کر کے رکھنے سے ثواب میں کسی کمی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے حالات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کر کے یہ فیصلہ کرے کہ آیا وہ سفر میں روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ دونوں صورتوں میں جس جانب وہ زیادہ حکما و محسوس کرتا ہو اُسے اختیار کر لے۔ اجر کے لحاظ سے دونوں صورتیں یکساں ہیں۔

### سخت مجبوری میں روزہ قبل از وقت کھول لینا درست ہے:

(67) وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى يَلْغَى عُشْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى بَدْءِ لِيَرَاهَ التَّلَّاثُ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ أَبْنُى عَبَّاسٌ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ "۔۔۔۔۔ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ شَرْبَ بَعْدَ الْعَصْرِ ۔۔۔۔۔ (مُتَّقِّنٌ عَلَيْهِ)

حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) روایت کرتے ہیں کہ (فتح کہ والے سفر کے موقع پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف نکلے تو راستہ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے گئے یہاں تک کہ آپ عسفان کے مقام (مدینے اور مکے کے درمیان ایک ساحلی مقام) پر پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اُسے ہاتھ میں لے کر اُپر اٹھایا تاکہ لوگ بھی اُسے دیکھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا۔ پھر کے پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہیں رکھے اور یہ واقعہ رمضان کے زمانے کا ہے۔۔۔۔۔ اسی بنابر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے (یعنی ان کا یہ فتویٰ تھا) کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے زمانے میں حالت سفر میں روزے رکھے بھی ہیں اور چھوڑے بھی ہیں اس لیے (تمہارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ) جو چاہے سفر میں روزہ رکھے جو نہ رکھے متفق علیہ اور امام مسلم کی روایت میں حضرت جابر بن عبد اللہ کے یہ الفاظ زائد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مقام عسفان پر) پانی عصر کے بعد بیا تھا۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے کس وقت روزہ کھولا تھا لیکن صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت میں یہ وضاحت موجود ہے کہ وہ عصر کا وقت تھا۔ ویسے حضرت عبد اللہ بن عباس کے بیان کا حاصل بھی یہی ہے کہ وہ دن کا وقت تھا، خواہ صحیح کا ہو یا شام سے پہلے کا۔ کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری سے پہلے پانی پیا تھا تو اُسے بیان کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر مغرب کے بعد پیا تھا تو پھر بھی اس کے بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔۔۔۔۔ بہر حال حضرت جابر کی روایت میں اس بات کی صراحت آگئی ہے کہ وہ عصر کا وقت تھا۔

اس حدیث میں حضرت ابن عباس نے اس بات کی اچھی طرح وضاحت فرمادی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر پانی پیا تھا تاکہ لشکر کے سارے لوگ یہ دیکھ لیں کہ آپ روزہ کھول رہے ہیں۔

اس حدیث سے ایک مزید بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص پر روزے کی حالت میں کوئی ایسی سختی آجائے جسے وہ برداشت نہ کر سکتا ہو تو وہ وقت سے پہلے روزہ کھول سکتا ہے۔۔۔۔۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی نے کسی مجبوری کی بنابر روزہ ہی نہ رکھا ہو اور دوسری شکل یہ ہے

کہ اس نے روزہ تور کھلی لیکن بعد میں کوئی ایسی سختی پیش آگئی کہ وہ اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ کھول لے۔ اس طرح روزہ کھولنا روزہ توڑنے کی تعریف میں نہیں آتا کہ اس پر کفار لازم آئے۔ اس کی صرف قضا لازم آتی ہے۔

## الفصل الثاني

مسافر، دودھ پلانے والی اور حاملہ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے:

(68) عَنْ أَئِسَّ بْنِ مَالِكٍ الْكُعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمَرْضِعِ وَالثَّبَانِيِّ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالترِمْذِيُّ وَالسَّائِعُ وَابْنُ مَاجَةَ

حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز ساقط کر دی ہے اور اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی، سنائی، ابن ماجہ)

آدھی نماز ساقط کرنے سے مراد چار رکعتوں والی نماز میں دور کعتوں کی معانی ہے۔ یہاں چونکہ ایک اور بات بیان کرنی مقصود تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کا تفصیلی حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ صرف یہ فرمایا کہ مسافر سے نماز کا ایک حصہ ساقط کر دیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ بیجیے کہ تین اور دور کعتوں والی نماز میں کوئی قصر اور معانی نہیں ہے۔ نماز میں رخصت کے علاوہ مسافر سے روزہ رکھنے کی پابندی بھی اٹھائی گئی ہے، البتہ ان دونوں رخصتوں میں فرق یہ ہے کہ مسافر پر روزے کی قضا تو لازم آتی ہے لیکن قصر نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالت سفر میں وہ چار کے بجائے دور کعتیں پڑھے اور پھر گھر پہنچ کر جو دور کعتیں اس نے سفر میں چھوڑ دی تھیں وہ بھی ادا کرے۔

مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ ایک مسافر اگر دورانِ سفر میں پوری نماز پڑھے تو یہ اس کے لیے درست نہیں جب کہ اگر وہ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے روزہ رکھنے کی اجازت ہے بلکہ یہ افضل ہے، جیسا کہ دوسری احادیث میں یہ بات گزر چکی ہے۔

اس سلسلے میں دوسری بات یہ بھی سمجھے لیجیے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں روزے چھوڑتا ہے تو اسے اُن کی قضا ادا کرنی ہو گی۔ اس طرح اگر دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے کے زمانے میں اور حاملہ عورت دورانِ حمل میں غیر معمولی تکلیف محسوس کرے تو انھیں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں۔ یہ دور گزر جانے پر بعد میں انھیں ان روزوں کی قضا ادا کرنا ہو گی۔

سفر میں مشکلات درپیش نہ ہوں تو روزہ رکھنا چاہیے:

(69) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ لَهُ حُمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شِبَّيْعٍ فَلِيُصُمِّ رَمَضَانَ مِنْ حِبْثُ أَدْرَكُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

جناب سلمہ بن مجّن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو جو اسے (رات تک) کسی ایسی جگہ پہنچا سکتی ہو جہاں وہ (اطمینان سے) پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے تو اسے چاہیے کہ جہاں بھی رمضان اس پر آجائے وہ روزہ رکھے۔ (ابوداؤد)

حضرور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسافر کا حکم یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو اور اس کے پاس سواری نہ ہو یا سواری ہو تو خستہ حال ہو اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر اس نے سفر میں روزہ رکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مغرب کے بعد تک کسی ایسے مقام تک نہ پہنچ سکے گا جہاں وہ اطمینان سے کھاپی سکے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے۔۔۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس اچھی سواری موجود ہو اور اسے اس بات کا لیقین ہو کہ وہ رات تک کسی ایسے مقام تک پہنچ جائے گا جہاں وہ اطمینان سے کھاپی سکے گا تو اسے چاہیے کہ جہاں بھی رمضان اس پر آجائے وہاں سے روزے رکھنا شروع کر دیے۔

یہاں یہ بات سمجھے لیجیے کہ فلیصُم کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ لازماً روزہ رکھ کیونکہ اس سلسلے کی دوسری احادیث کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کے لیے یہ لازم نہیں ہے بلکہ اسے محض اس کی اجازت ہے اس لیے اگرچہ امر غائب کا صیغہ ہے (یعنی چاہیے کہ وہ روزہ رکھے) لیکن اس کے معنی وُجوب کے نہیں ہیں کیونکہ دوسری احادیث کو جمع کرنے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔۔۔ اگر صرف اسی حدیث کو لے لیا جائے تو ایک آدمی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ مسافر پر روزہ رکھنا اجنب ہے لیکن یہ بات درست نہ ہو گی۔

احادیث سے، اور اسی طرح قرآن مجید سے حکم معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مضمون سے متعلق جتنی احادیث اور آیات موجود ہیں۔ آدمی انھیں جمع کر کے کسی حکم کا استبطاٹ کرے۔ وہ آدمی سخت غلطی کرے گا جو قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو لے کر اس سے حکم نکانے کی کوشش کرے اور اس بات سے صرف نظر کرے کہ قرآن میں اسی موضوع سے متعلق دوسرے مقامات پر کیا کہا گیا ہے۔ یہی صورت حدیث کے معاملے میں ہے کہ کسی ایک حدیث کو لے کر اس سے حکم نکانے کے بجائے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس موضوع سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشادات کیا ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص صرف اسی حدیث کو سامنے رکھ کر حکم نکالے گا تو وہ یہ کہے گا کہ جس مسافر کو اچھی سواری میسر ہوا س کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھ کیونکہ حضور نے فلیصُم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، لیکن یہ درست نہ ہو گا کیونکہ دوسری احادیث میں نہایت واضح آلفاظ میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی رعایت موجود ہے۔ اس لیے یہاں فلیصُم کے معنی یہ ہوں گے کہ ”بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔“

قرآن اور حدیث میں اس امر کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ ایک بات کو حکم کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے یعنی اس کے لیے صیغہ امر استعمال کیا گیا ہے مگر اس کے معنی وُجوب کے نہیں ہیں۔ مثلاً سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا ہے۔ إِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو۔۔۔ اگر محض فاصطادُوا (پیش کار کرو) کے لفظ کو لے لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آدمی احرام کھولتے ہی پہلا کام یہ کرے کہ جا کر شکار کرے۔ در انحالیکہ یہ مراد نہیں ہے۔۔۔ اصل مراد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں تمھیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن احرام کھولنے کے بعد تم شکار کر سکتے ہو چنانچہ یہاں اگرچہ صیغہ امر سے وُجوب ثابت نہیں ہوتا۔

### الفصل الثالث

**فتح مکہ کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ افطار کرنے کا واقعہ:**

(70) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى يَلْغَى كُرَاعَ الْغَيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَقَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَيْلَ لَمْ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَادُ أُولَئِكَ الْعُصَادُ . رَوَاهُ مُسْلِم

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال رمضان کے مہینے میں مدینے سے مکہ کی جانب نکلے تو راستہ بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے گئے یہاں تک کہ آپ کرام العظیم<sup>1</sup> کے مقام پر پہنچے۔ لوگوں نے اس روز بھی معمول کے مطابق روزہ رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور اسے ہاتھ میں لے کر اتنا اور اٹھایا کہ لوگ اسے بخوبی دیکھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا (یعنی روزہ کھول لیا)۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا گیا کہ بعض لوگ ابھی تک روزے سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں۔ (مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کی مہم پر روانہ ہوئے تو یہ رمضان کا زمانہ تھا اور گرمی کا موسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور بہت بڑی مہم پر پیش تھی۔ اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر لوگ کمزور ہو گئے تو جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے ان مصالح کی بنا پر آپ نے علانیہ روزہ کھولا تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی تقاضید کرتے ہوئے روزہ کھول لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہلا کر نہیں بھیجا کہ روزہ کھول لیا جائے بلکہ خود ایک فعل سب کے سامنے کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب روزہ نہیں رکھنا ہے اور اب اس رمضان میں معافی ہے لیکن اس کے بعد بھی جب کچھ لوگوں نے روزہ کھولا اور آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ نافرمان ہیں، وہ نافرمان ہیں۔

اس کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول نے اللہ کی عطا کردہ ایک رعایت سے فالدہ اٹھایا ہے تو یہ لوگ کون ہیں جو اس رعایت کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ ہم تو عزیمت کے مقام پر ہیں، اور ہمیں اس رخصت سے فالدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔

یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس سے یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ اگر رمضان کی حالت میں کسی آدمی کو سختی پیش آئے اور وہ روزہ نہ کھولے تو گنہ گار ہو گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا منشاء تھا کہ جب میں نے روزہ کھول لیا ہے تو اس کے بعد دوسرے لوگوں کا روزہ نہ کھولنا ایک نافرمانی کا فعل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مصالح کے پیش نظر علانیہ روزہ افطار فرمایا تھا ان کا تقاضا یہی تھا کہ دوسرے لوگ بھی اس معاملے میں آپ کی اتباع کریں۔

**سفر میں (جب کہ سختی پیش آنے کا خدشہ ہو) روزہ رکھنا مناسب نہیں:**

(71) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَائِمٌ رَمَضَانٌ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرٍ فِي الْحَضَرِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ

حضرت عبد الرحیمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سفر کی حالت میں رمضان کا روزہ رکھنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ شخص جو گھر پر رہتے ہوئے روزہ نہ رکھے۔ (ابن ماجہ)

<sup>1</sup> کرام العظیم، مدینے اور کے کے درمیان ایک مقام جو غسان کے قریب ہے۔

جس طرح یہ غلط ہے کہ کوئی شخص گھر پر مقیم ہوتے ہوئے کسی عذر کے بغیر رمضان کا روزہ ترک کر دے اسی طرح یہ بھی صحیح نہیں کہ آدمی حالتِ سفر میں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر روزہ رکھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں فعلوں کا درجہ بھی ایک سا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آدمی گھر پر ہو تو روزہ نہ رکھنا بُرا، اور سفر میں ہو تو روزہ رکھنا بُرا! لیکن یہ اُس وقت ہے جب کہ سفر کی حالت میں آدمی کو سختی پیش آئے یا سختی پیش آنے کا خطرہ ہو۔ ورنہ اس سے پہلے احادیث گزرچکی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سفر کی حالت میں روزہ رکھا ہے اور صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا ہے۔ مزید برآں ایسی حالت بھی گزری ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض روزے سے تھے اور بعض نہیں تھے۔ اس لیے لامحالہ ان سب احادیث کی روشنی میں اس حدیث کی یہ تاویل کی جائے گی کہ سفر کی حالت میں اگر آدمی کو سختی پیش آئے یا اس کا شدید اندریشہ ہو تو اس حالت میں روزہ رکھنا بُرا ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح بُرا ہے جس طرح کہ آدمی گھر پر آرام سے ہو اور روزہ نہ رکھے، اگرچہ دونوں کا درجہ یکساں نہیں ہے کیونکہ یہ بات پہلے گزرچکی ہے کہ اگر آدمی گھر پر مقیم ہوتے ہوئے رمضان کا کوئی روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو بعد میں عمر بھر کی قضا بھی اُس کی تلافی نہیں کر سکتی۔۔۔۔۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حالتِ سفر میں روزہ رکھنے کو۔۔۔۔۔ خواہ اس میں سختی ہی کیوں نہ پیش آئے۔۔۔۔۔ کسی طرح بھی اس درجے کا بُرا فعل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

### سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت اللہ کی بخشی ہوئی ایک رخصت ہے:

(72) وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرُو السَّلْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ بِي فُوَّةً عَلَى الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ؟ قَالَ: بِئِ رُّخْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَخْدَى بِهَا فَخَسِّنْ وَمَنْ أَحْبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت حمزہ بن عمرو اسلامی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنے اندر اتنی قوت پاتا ہوں کہ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھو۔ اگر میں ایسا کروں تو کیا میں گناہ گار ہوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے ایک رعایت ہے۔ اگر کوئی شخص اس رعایت سے فائدہ اٹھائے تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھنا پسند کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں۔

یہ اصل پوزیشن ہے جو اس باب کی آخری حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح ترین صورت یہی ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے اندر اتنی قوت پاتا ہو اور اُس کے حالاتِ سفر بھی سازگار ہوں تو اس کے لیے روزہ رکھنا بالکل درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کے اندر سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا اس کو سختی پیش آنے کا خطرہ ہے تو اس حالت میں روزہ چھوڑ کر اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں رعایت دے تو آدمی کے لیے مستحسن یہ ہے کہ وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھائے۔

## بَابُ الْقَضَاءِ

اس باب میں روزے کی قضاء کے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔

## الفصل الأول

رمضان کے قضا روزے شعبان کے نصف آخر میں بھی رکھے جاسکتے ہیں:

(73) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطَعْتُ أَنْ أَفْضِي إِلَّا فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: تَغْنِي الشَّغْلُ مِنَ الْئَبَى أَوْ بِالثَّئِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مُتَقْتَلُ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میری ذمے رمضان کے کچھ روزے ہوتے تھے مگر میں شعبان کے سوا اور کسی مہینے میں قضا کے یہ روزے نہ رکھ پاتی تھی۔۔۔۔۔ اس حدیث کے ایک راوی میکی بن سعید رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے شعبان سے پہلے یہ روزے نہ رکھ سکتی تھیں۔ (تفق علیہ)

پہلے ایک حدیث گزری تھی جس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ شعبان کی پندرہ تاریخ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے (شعبان کے ابتدائی زمانے میں اس کی اجازت ہے) کیونکہ اگر آدمی شعبان کے آخری زمانے میں بھی روزے رکھے تو اُسے ایسے کمزوری لاحق ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے پورے نہ کر سکے، درحالیکہ شعبان میں تو وہ نفلی روزے رکھتا ہے اور رمضان میں معاملہ فرض روزوں کا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ میں قضا کے روزے شعبان کے مہینے میں رکھتی تھی کیونکہ باقی دس مہینوں کے اندر مجھے ایسی مصروفیات رہتی تھیں جن کی وجہ سے قضا کے روزے ملتے رہتے تھے یہاں تک کہ شعبان آ جاتا۔ انہوں نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ آیا وہ یہ روزے شعبان کی پندرہ تاریخ سے پہلے رکھتی تھیں یا اس کے بعد۔ لیکن حدیث کے اندر ازا سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ قضا کے روزے پندرہ تاریخ کے بعد رکھنے کا ذکر فرمائی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قضا کے روزے حقیقت میں فرض ہیں اور نفل کی حیثیت نہیں رکھتے اس لیے وہ اس زمانے میں بھی رکھے جاسکتے ہیں۔

**نفلی اور قضا روزے رکھنے سے پہلے بیوی کو شوہر سے اجازت لئی چاہیے:**

(74) وَعَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَابِدٌ إِلَّا يُاذْنِهُ وَلَا تُأذَنَ فِي يَئِنْبَةٍ إِلَّا يُاذْنِهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک عورت کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو اور وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے۔ اور اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو اُس کے گھر میں آنے کی اجازت دے إِلَّا يَأْتِي کہ اُس کے شوہرنے اس کے لیے اجازت دے رکھی ہو۔ (مسلم)

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے کہ عورت کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو لیکن وہ اس کی اجازت کے بغیر روزے رکھے۔ اس سے نفلی روزے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور قضا کے روزے بھی۔۔۔۔۔ یہاں یہ حدیث بیان بھی باب التَّضَاعِ میں ہو رہی ہے)۔۔۔۔۔ چونکہ قضا کے روزوں میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ گیارہ مہینوں کے اندر کسی وقت رکھے جاسکتے ہیں اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت لے لے۔ اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر روزے رکھنے شروع کر دے، خواہ نفلی ہوں یا قضا کے۔ کیونکہ بعض حالات میں یہ چیز شوہر

کے لیے باعثِ تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایسی کسی چیز سے میاں بیوی کے درمیان چپقلش واقع ہونا یا کم از کم شوہر کے دل میں بیوی کے لیے ناراضی کا جذبہ پیدا ہونا شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت اس بات کو بڑی اہمیت دیتی ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات زیادہ سے زیادہ خوشگوار ہوں کیونکہ ان تعلقات میں ناخوشگواری کے نتائج بہت بُرے اور دُور رس ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت اس بات کو ملحوظ رکھتی ہے کہ کسی معاملہ میں زوجین کے درمیان کسی قسم کی بد مرگی پیدا نہ ہونے پائے۔ بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی کا روزہ رکھنا (خواہ وہ نقلی ہو یا قضا کا) اتنا ناگوار محسوس ہوتا ہے کہ وہ روزے ہی کے متعلق نامناسب الفاظ اپنی زبان سے نکال بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف میاں بیوی کے تعلقات میں بد مرگی پیدا ہوتی ہے بلکہ وہ آدمی بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے بیوی اپنے شوہر سے اس بات کی اجازت لے لے۔ البتہ رمضان کے روزوں کا معاملہ مختلف ہے۔ رمضان کے زمانے میں شوہر کی اجازت اور رضامندی حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ رمضان کے روزے چھوڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔

### حائضہ عورت پر روزوں کی قضا لازم آتی ہے مگر نمازوں کی نہیں:

(75) وَعَنْ مُعَاذَةِ الْعَدُوِّيَّةِ أَتَهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ: مَا بِالْحَائِضِ تَفْضِي الصَّوْمُ وَلَا تَعْصِي الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ عَائِشَةَ: كَانَ يُهِمُّنَا ذَلِكَ فَتَؤْمِنُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمِنُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ایک تابعی خاتون معاذہ عدویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک حائضہ عورت ایام ماہواری میں جو روزے چھوڑتی ہے ان کی قضا تو وہ ادا کرتی ہے لیکن جو نمازوں چھوڑتی ہے ان کی قضا ادا نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں) ہم پر یہ حالت گزرتی تھی تو ہمیں یہ حکم تو دیا جاتا تھا کہ ہم روزوں کی قضا کریں لیکن یہ حکم نہیں دیا جاتا تھا کہ ہم نمازوں کی قضا بھی کریں۔ (مسلم)

یہاں دیکھئے، سوال کرنے والی خاتون اس بات کی علت دریافت کرتی ہیں کہ حائضہ عورت ایام ماہواری کے روزوں کی قضا کیوں ادا کرتی ہے جب کہ نمازوں کی قضا ادا نہیں کرتی، لیکن حضرت عائشہ اس کے جواب میں فرماتی ہیں کہ حکم یہی ہے اگرچہ اس حکم کے اندر مصلحت موجود ہے اور غور کرنے سے وہ سمجھ میں بھی آسکتی ہے لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قانون اور حکم یہ ہے۔ قطع نظر اس سے کہ علت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمہارا کام اس قانون کی پابند کرنا ہے۔ یہ گویا ایک مسلمان کی اولین صفت ہے۔ اگر وہ یہ شرط لگاتا ہے کہ میں حکم اُس وقت مانوں گا جب مجھ پر اس کی مصلحت واضح ہو جائے گی تو وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایک شخص جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لے اور خدا کی کتاب کے متعلق یہ جان لے کہ یہ کتاب برحق ہے تو اس کا کام حکم کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر حکم کی علت اور مصلحت بھی اس کی سمجھ میں آئے اور کسی پر یہ لازم بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی حکمت و مصلحت بتائے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اُس کا کام یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم اس کے سامنے آئے وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔

جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے اس میں بیان کردہ حکم کی حکمت اور مصلحت آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ نمازوں میں پانچ وقت فرض ہے۔ اب فرض کیجیے کہ ایک عورت کو ایام ماہواری میں آٹھ یادس دن روز تک نماز چھوڑنی پڑتی ہے۔ اس

کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ذمے قضا کی چالیس یا پچاس نمازیں ہو گئیں جو اسے بعد میں ادا کرنی پڑیں گی۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح اس سخت مشکل پیش آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں رعایت فرمائی اور نماز کی قضا لازم نہیں کی۔ اس کے بر عکس روزوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سال کے ایک مہینے میں فرض ہوتے ہیں اور قضا ہونے کی صورت میں سال کے باقی مہینوں میں کسی وقت بھی رکھے جاسکتے ہیں اس لیے یہاں وہ رعایت نہیں دی گئی جو نماز کے بارے میں دی گئی ہے۔ یہ ایک بالکل واضح بات تھی اور حضرت عائشہ چاہتیں تو وہ سوال کرنے والی خاتون کو اس حکم کی حکمت اور علت بتا سکتی تھیں، لیکن انہوں نے حکمت بتانے کے بجائے صرف حکم بتا دیتے پر اتفاق فرمایا۔

### کیا فوت شدہ آدمی کے روزوں کی قضا اس کے ولی کے ذمے ہوگی؟

(76) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمَ صَامَ عَنْهُ وَلَيْهِ (مُتَقْفَ عَلَيْهِ)  
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کے بد لے میں روزے رکھے۔ (متفق علیہ)  
یہ ایک پیچیدہ فقہی بحث ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذمے کچھ روزے رہ گئے ہوں تو آیا اس کے ولی پر ان کی قضا لازم آتی ہے یا نہیں۔

اس سلسلے میں چونکہ متعدد احادیث آئی ہیں اور ان میں اختلاف ہے اس لیے اس حدیث کے بارے میں بھی بحث پیدا ہوئی ہے اور فقہاء کے مسلک بھی مختلف ہو گئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اس حدیث کی بنابریہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے رمضان کے روزے رہ جائیں تو اس کے ولی کو اس کی طرف سے روزے رکھنے ہوں گے لیکن امام ابو عینیہ، امام مالک اور امام شافعی اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ یہ آئمہ اس حدیث کو رد تو نہیں کرتے البتہ وہ اس کی تاویل کرتے ہیں۔ اول تو ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں کہ یہاں رمضان کے روزے ہی مراد ہوں بلکہ نذر کے روزے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ (یعنی اگر کسی شخص نے نذر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا لیکن یہ نذر پوری کرنے سے قبل وہ فوت ہو گیا تو اب اس کا ولی اس کی طرف سے یہ روزے رکھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ ضروری نہیں ہے کہ صیغہ امر کے معنی لازماً وجوب کے ہوں) (جیسا کہ پہلے بھی ایک حدیث کی وضاحت کے سلسلے میں یہ بات گزر چکی ہے) اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ ہو کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس سلسلے کی بعض دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث اُن احادیث سے پہلے کی ہے۔ اس لیے ان فقہاء کے نزدیک اب یہ حکم منسوخ سمجھا جائے گا۔

اس سلسلے کی دوسری احادیث آگے آرہی ہیں۔

### الفصل الثاني

**فوت شدہ آدمی کے قضا روزوں کے بد لے میں مسائیں کو کھانا کھلانے کا مسئلہ:**

(77) عَنْ تَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْيَتِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاَتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلِيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانًا كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: وَالصَّحِيفَةُ أَنَّ مَوْفُوفَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ

جذاب نافع رحمہ اللہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اُس کے ذمے رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدے میں ایک مسکین آدمی کو کھانا کھلایا جائے (یعنی اس کا فدیہ دیا جائے۔) (ترمذی)

امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بلکہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا فتویٰ ہے یعنی یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ مضبوط سندوں سے جو روایات آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اپنی رائے ہے۔۔۔۔ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے فدیہ کے طور پر مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ وہی فدیہ ہے جو اس کی زندگی میں بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔۔۔۔ قرآن مجید میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بیماری وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ ادا کرے۔ یعنی ہر روزے کے بدے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ آب فرض کیجیے کہ وہ بیماری کے زمانے میں کھانا نہیں کھلا سکا اور فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ اس کے فدیہ کے طور پر ہر روزے کے بدے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔

اگر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مانا جائے تو اس صورت میں یہ اوپر والی حدیث کے خلاف پڑتا ہے جس کی رو سے یہ حکم نکلتا ہے کہ ایسے شخص کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ لیکن اگر اسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول مانا جائے۔۔۔۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فتویٰ حضور کے ارشاد کے خلاف ہے حالانکہ یہ ایک یقینی امر ہے کہ اگر ان کے علم میں یہ بات ہوتی کہ اس سلسلے میں حضور کا ارشاد یہ ہے کہ ولی کو روزہ رکھنا چاہیے تو وہ ہر گز اس کے خلاف فتویٰ نہ دیتے۔ اس لیے فقهاء اس بات سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر پہلے وہ حکم تھا بھی کہ ولی کو روزہ رکھنا چاہیے تو بعد کے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ یا پھر اس کی یہ تاویل کرنا ہو گی کہ اُس میں امر کا صیغہ و جوب کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے صرف اس بات کی اجازت لٹکتی ہے کہ ولی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب اس سلسلے کی تیسری حدیث آگے آرہی ہے۔

### الفَصْلُ الثَّالِثُ

کوئی شخص کسی دوسرے کے بدے میں نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے:

(78) عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُشَائِلُ: إِنْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. رَوَاهُ فِي الْمُؤْطَأ

امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان تک یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب یہ مسئلہ پوچھا جاتا تھا کہ کیا کوئی شخص دوسرے کے بدے میں روزے رکھ سکتا ہے یا کوئی شخص دوسرے کی جگہ نماز پڑھ سکتا ہے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نہ کوئی شخص کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ (مالک)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد کے خلاف نہیں پڑتا کیونکہ اگر مفروضے کے طور پر یہ مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم ۔۔۔۔۔ کہ آدمی کے ولی کو اس کے بدالے میں روزہ رکھنا چاہیے ۔۔۔۔۔ انھیں نہیں پہنچا تھا تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا زمانہ تھا، بہت سے صحابی ایسے ہو سکتے تھے جو ان سے کہتے کہ جب حضور کا حکم یہ ہے تو آپ یہ فتویٰ کیسے دے رہے ہیں لیکن چونکہ ان سے کسی نے یہ بات نہیں کہی اس لیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں یہ بات عام طور پر معلوم تھی کہ کسی شخص کے روزوں کی قضا کسی دوسرے شخص کے ذمے لازم نہیں آتی، خواہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔

## باب صِيَام التَّطْوُع

تَطْوُع کے معنی ہیں اپنی رضاو رغبت سے کوئی کام کرنا۔۔۔ یہ فرض کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ فرض تو وہ چیز ہے جس کی پابندی کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن تَطْوُع وہ چیز ہے جو آدمی خود اپنی مرضی سے کرے، بغیر اس کے کہ وہ اس پر فرض اور لازم کی گئی ہو چنانچہ صِيَام التَّطْوُع سے مراد نفلی روزے ہیں اور اس باب میں انہی کا ذکر ہے۔

## الفَصْلُ الْأَوَّلُ

حضرور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھتے تھے:

(79) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّىٰ تَهُولَ: لَا يَفْطَرُ وَيَفْطَرُ حَتَّىٰ تَهُولَ: لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطَّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَهْرٍ— وَفِي رِوَايَةِ قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكُنْ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ (مُتفقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ سمجھتے کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور کبھی روزے نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ سمجھتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے۔ اور میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھے ہوں۔۔۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ شعبان کے کم ہی دن ایسے ہوتے تھے جن میں حضور روزہ نہیں رکھتے تھے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھ لیتے تھے۔ (متفق علیہ)

اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ آئندہ احادیث میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ آئندہ احادیث میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کے متعلق مختلف اقوال ملیں گے جن سے معلوم ہو گا کہ نفلی روزوں کے بارے میں آپ کا کیا طرزِ عمل تھا۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بتا رہی ہیں کہ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ مسلسل روزے رکھنا چھوڑ دیتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کے بارے میں کوئی ایک مقرر طریقہ اختیار نہیں کیا ہوا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دوسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ رمضان کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ کر۔ البتہ صرف شعبان ایسا مہینہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور

بسالوقات شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ گویا آپ نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے۔۔۔۔۔ اس چیز کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو یہ ہدایت فرمادی تھی کہ نصف شعبان کے بعد نفلی روزے نہ رکھے جائیں کیونکہ اس سے انسان کو ایسی کمزوری لاحق ہو سکتی ہے جو رمضان کے روزوں پر اثر انداز ہونے والی ہو۔ البتہ وہ لوگ اس سے مستثنی ہیں جن کے ذمے مثلاً قضايانہ کے روزے رہ گئے ہوں یا کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ان خاص دنوں ہی میں نفلی روزے رکھنے کے عادی ہوں۔ چنانچہ اس طرح کی مستثنی صورتوں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام ہدایت یہی تھی۔۔۔۔۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت صرف دوسرے لوگوں کے لیے تھی اور آپ کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔

### حضرور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے سوا کسی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے:

(80) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْقَقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَاشِيَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَبَرَا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى ماضٍ لِسَبِيلِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

جناب عبد اللہ بن شیقق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میرے علم میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رمضان کے سوا کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں اور اسی طرح یہ بات بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی مہینہ ایسا چھوڑا ہو جس میں کوئی ایک روزہ بھی نہ رکھا ہو اور یہ طریقہ آپ کا اس وقت تک رہا جب تک کہ آپ اپنے راستے پر نہ چلے گئے۔ (مسلم)

مراد یہ ہے کہ اپنی دنیوی زندگی کے خاتمے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ کبھی رمضان کے سوا کسی مہینے کے پورے روزے آپ نے نہیں رکھے، اور کبھی کوئی ایسا مہینہ بھی نہیں گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی روزہ نہ رکھا ہو۔

### شعبان کے آخری دو دنوں کے روزوں کا مسئلہ:

(81) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلًا وَعُمَرَانَ يَسْمَعُ فَقَالَ: يَا أَبا فَلَانٍ أَمَا حُمُّثَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرَتْ فَضْمَنْ يَوْمَيْنِ۔ (متفق علیہ)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے دریافت فرمایا (یا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے شخص سے دریافت فرمایا اور میں سن رہا تھا۔۔۔۔۔ بعد کے راویوں کو یہ شک ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کس سے تھا) کہ اے فلاں، کیا تم نے شعبان کے آخری دو دنوں کے روزے نہیں رکھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (کہ اگر تم نے ان دو دنوں کے روزے نہیں رکھے تو) جب تم موجودہ (رمضان کے) روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو کچھ دوسرے دو دنوں کے روزے (ان کے بدالے میں) رکھ لینا۔ (متفق علیہ)

اس روایت میں یہ اختلاف واقع ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کس سے تھا، بعد کے راویوں کو یہ یاد نہیں رہا کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا، یا یہ کہا تھا کہ کسی شخص سے آپ نے پوچھا تھا اور

میں کس رہا تھا۔ تاہم یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے۔۔۔۔۔ اس روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو راوی حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کر رہے ہیں غالباً وہ فقیہ نہیں تھے اس لیے انہوں نے اس بات کیوضاحت نہیں کی کہ یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیوں کیا تھا اور انھیں وہ روزے رکھنے کی تاکید کیوں فرمائی تھی۔۔۔۔۔ اس بات کیوضاحت نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط فہمی لاحق ہوتی ہے کہ کیا شعبان کے آخری دو دنوں کا روزہ رکھنا ضروری ہے اور اگر ایک آدمی یہ روزے نہ رکھ سکا ہو تو بعد کے دنوں میں ان کی قضا لازم آجائی ہے؟۔۔۔۔۔

دوسری روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غالباً صوت یہ پیش آئی تھی کہ وہ صاحب جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا یا تو ان کے ذمے قضاياندر کے روزے تھے یا وہ ان دنوں میں نفلی روزوں کا التزام کیا کرتے تھے جیسا کہ نفلی روزوں کے متعلق مختلف لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں کچھ حضرات ہر مہینے کے درمیانی تین دن کے نفلی روزے رکھتے تھے۔ کچھ دوسرے لوگ کوئی اور دن مقرر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان صاحب نے مہینے کے آخری دو دنوں کا التزام کر رکھا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات دریافت فرمانے کا سبب بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کے علم میں یہ بات ہو کہ نذر یا قضا کے کچھ روزے ان کے ذمے تھے، یا ان دنوں کے روزوں کا التزام کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے یہ روزے رکھ لیے؟۔۔۔۔۔ اب خود ان صاحب کے یہ روزے نہ رکھنے کی پہلی فرمادی تھی اس لیے انہوں نے ان دنوں میں روزے رکھنے بند کر دیے وہ سلم نے پندرھویں شعبان کے بعد روزے نہ رکھنے کی پہلی فرمادی تھی اس لیے انہوں نے ان دنوں میں روزے رکھنے بند کر دیے۔۔۔۔۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں مسئلہ بتانے کے لیے یہ سوال دریافت فرمایا کہ تم نے ان دنوں کے روزے رکھ لیے؟ جب انہوں نے کہا کہ نہیں رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے بد لے میں دوسرے دنوں کے روزے رکھ لینا تاکہ جو التزام تم کیا کرتے ہو وہ پورا ہو جائے۔ (یا تمہارے ذمے نذر یا قضا کے جو روزے ہیں وہ ادا ہو جائیں)

بھی اس حدیث کی تاویل ہو سکتی ہے ورنہ اگر اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ شعبان کے آخری دو دنوں کے روزے رکھنا ضروری ہے اور اگر نہ رکھے جائیں تو ان کی قضا لازم آتی ہے تو یہ ایک ایسی بات ہو گی جونہ کسی دوسرے حدیث سے ثابت ہوتی ہے اور نہ کوئی فقیہ اس بات کا قائل ہے۔

### ماہ محرّم کے روزوں اور نماز تہجد کی فضیلت:

(82) وَعَنْ أَبِي بُرْيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحْرَمٍ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز صلوٰۃ اللیل (تہجد کی نماز) ہے۔ (مسلم)

محرم کے روزوں کے متعلق آگے مختلف احادیث آرہی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزے کا التزام فرماتے تھے اور محرم کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ یہاں یہ معلوم ہوا کہ رمضان کے سواد دوسرے دنوں میں سب سے

زیادہ بہتر دن جن میں روزہ رکھا جائے محرم کا مہینہ ہے۔۔۔۔۔ اس کی مختلف علتمیں ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی اس لیے یقین طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ محرم کے مہینے کے نفلی روزے دوسرے مہینوں کی بہ نسبت کیوں نکر زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اس حدیث میں دوسری بات رات کی نماز کے متعلق فرمائی گئی ہے۔ رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ وہ نماز جو آدمی خاموشی کے ساتھ رات کی تہائی میں پڑھتا ہے اور وہ نوافل جن کا علم خود آدمی کے اور اس کے خدا کے سوا کسی کو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضل اور پسندیدہ ہیں۔

جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب ایک موقع پر ایک چیز کو افضل کہا جاتا ہے اور دوسرے موقع پر دوسری کو تو اس میں درحقیقت کوئی تضاد یا تناقض نہیں ہوتا۔ بعض کاموں کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ دراصل لوگوں کو یہ توجہ دلانے کے لیے آئی ہیں کہ فلاں کام بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے کرنے کا بڑا جرہ ہے۔ ایسے موقع پر اس کام کی تعریف ایسے انداز سے کی گئی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے شوق اور لگن پیدا ہو۔ پھر بعض اوقات ایک ہی وقت میں متعدد کاموں کے لیے افضل کام لفظ آیا ہے۔ اس کا بھی یہی مطلب نہیں کہ بس ان سے زیادہ فضیلت رکھنے والا دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ حقیقت میں بہت سے کام ایسے ہو سکتے ہیں جو افضل ہوں۔ اب مثلاً یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ محرم میں نفلی روزے رکھنا بہت افضل ہے۔۔۔۔۔ دوسری جگہ عرف (یعنی نویں ذی الحجه) کے روزے کو بڑی فضیلت والا قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں حقیقت میں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ عرف کے دن کاروزہ بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے اور محرم (یعنی عاشوراء) کا روزہ بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل صلوٰۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری کوئی نماز کسی طرح کی فضیلت نہیں رکھتی ہے یا کم تر درجے کی فضیلت رکھتی ہے۔ ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ احادیث میں موکدہ سنتوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ موکدہ سنتیں بھی بڑی فضیلت رکھتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی اپنی جگہ پر بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ دونوں حدیثوں میں کسی طرح کا تضاد نہیں ہے۔

فرض نمازوں کے بعد تہجد کی فضیلت جس بنابر ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز تو رکن اسلام ہے اور اسلام کے اس رکن کو قائم کرنے کے لیے فرض نمازوں کا علاویہ اور منظم طریقے سے انجام دینا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نظام دین میں نماز کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اس کے بر عکس تہجد کی نماز بڑے اخفاء کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور جب تک آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھرا تعلق، بہت زیادہ محبت اور مخلصانہ ایمان موجود نہ ہو اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی راتوں کو اٹھ کر خاموشی کے ساتھ اس طریقے سے یہ نماز ادا کرے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ چیز غیر معمولی اخلاص و للہیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔۔۔۔۔ فرض نماز میں تو یا کاری کا امکان ہوتا ہے کیونکہ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے اس کی غرض دنیا کو یہ دکھانا ہو سکتی ہے کہ یہ صاحب بڑے نمازی ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ تہجد میں اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تہجد تو وہی شخص ادا کرے گا جس کا اللہ کے ساتھ نہیاں گہر اور مخلصانہ تعلق ہو اور وہ لوگوں میں نام پیدا کرنے کا نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کا آرزومند ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تہجد کو اس قدر فضیلت حاصل ہے۔

یہاں عاشوراء، یعنی دسویں محرم کے روزے کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے بلکہ عاشوراء کی اہمیت بہت پہلے سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آرہی تھی۔ بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات اس روز نصیب ہوتی تھی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانہ کے طور پر پابندی کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ چونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشوراء کے دن کے روزے کو افضل قرار دیا اور اس کے رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ آگے جل کر ایک دوسری حدیث میں اس کے متعلق مزید ایک وضاحت آرہی ہے۔

### عاشوراء (دسویں محرم) کے روزے کی فضیلت:

(83) وَعَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بَدَا الْيَوْمُ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَبَدَا الشَّهْرُ يَغْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ۔ (مُتَقَرَّ عَلَيْهِ)

حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کے روزے کی فضیلت کی بنا پر اس کا التزام کیا ہو سوائے عاشوراء کے دن کے، اور (کسی مہینے کی فضیلت کی بنا پر اس کے روزے رکھنے کا التزام کیا ہو) سوائے اس مہینے کے، یعنی رمضان کے۔ (متفق علیہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جس طرح آپ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا التزام فرماتے تھے اسی طرح آپ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا التزام بھی فرماتے تھے۔ اس سے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حضور کے نزدیک عاشوراء کے دن کی فضیلت باقی دنوں کی بہ نسبت زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ اس کا روزہ رکھنے کا التزام فرماتے تھے۔

واضح ہے کہ عاشوراء کے روزے کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا ارشاد نہیں ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ سب سے افضل ہے بلکہ یہ ایک نتیجہ ہے جو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس التزام کو دیکھ کر خود اخذ کیا۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ آگے ایک اور حدیث آرہی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن کی فضیلت عاشوراء کے دن سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں اختلاف یا تناقض پایا جاتا ہے، لیکن ایسا خیال کرنا درست نہ ہو گا کیونکہ اس حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے بلکہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا ایک اخذ کردہ نتیجہ ہے اور آئندہ جو حدیث آرہی ہے اس میں عرفہ کی فضیلت کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد بیان ہوا ہے۔

### عاشوراء کے ساتھ نویں یا گیارہویں تاریخ کا روزہ ملانا ضروری ہے:

(84) وَعَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جِئَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ يُعْظِلُهُ الْيَهُودُ وَالشَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لِأَصْوَمُنَ الثَّالِثَعَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جب (ایک دفعہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کارروزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو ایک ایسا دن ہے کہ جس کی تعظیم یہود و نصاریٰ بھی کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کی نویں تاریخ کارروزہ بھی رکھوں گا۔ (مسلم)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری سال میں عرض کی تھی۔ اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کارروزہ رکھتے تھے تو اس وقت کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس طرف مبذول نہیں کرائی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال یہ روزہ رکھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی۔ اس سے غالباً اُن کا منشاء یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہ فرمائیں۔ بلکہ اپنے نزدیک وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہود و نصاریٰ کے ہاں بھی اس دن کی فضیلت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے افضل قرار دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہود و نصاریٰ اس سے ہمارے تقلید کرنے کا پہلو نکال لیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں محرم کارروزہ بھی ضرور رکھوں گا تاکہ میرا عمل یہود و نصاریٰ کے عمل سے مختلف ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص عاشوراء کارروزہ رکھنے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ اس سے ایک دن پہلے یا بعد کارروزہ بھی اس کے ساتھ ملائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کے کرنے کی خواہش یا ارادے کا اظہار کرنا بھی اس کے سنت ہونے کی دلیل ہے۔ آگے ایک اور حدیث آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشوراء کے ساتھ ملا کر نویں تاریخی کارروزہ رکھنا ضروری نہیں بلکہ گیارہویں تاریخ کارروزہ بھی رکھا جاسکتا ہے۔

اس بات سے آپ اسلام کے مزاج کی نزاکت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اسلام ہر مقام پر مسلمانوں کی امتیازی شان برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ مسلمان کسی وقت بھی جا کر یہود و نصاریٰ یاد و سرے کافروں کی تقلید کرنے لگیں۔

یہ اسی ہدایت کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے چن چن کر یہود و نصاریٰ کی برا یوں کی تقلید کرنا شروع کر دی اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کی کوئی ظاہری تمیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک آدمی سے یہ سمجھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے لیکن کچھ دیر کے بعد یہ بات کھلتی ہے کہ یہ حضرت کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب تم یہود و نصاریٰ کے قدم بقدم چلو گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی اس کے اندر گھسو گے۔ تو آج وہ نقشہ پوری طرح سامنے موجود ہے۔ اور یہ فقط اس بات کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے زندگی کے تقریباً سبھی معاملات میں اسلامی شریعت کے مزاج اور اسلامی شان کو نظر انداز کر دیا ہے۔

### عَرْفَهُ (ذِي الْحِجَّةِ) كَرْوَزَةُ كَامِسَلَةٍ:

(85) وَعَنْ أَمِّ الْفَضْلِ بْنِتِ الْحَارِثِ: أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَيَا يَوْمَ عَرْفَةَ فِي صِيَامٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بُوْ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بَقْدَحَ لِبْنَ وَبْرَوْ وَاقْفَ عَلَ بَعِيرٍ بِعَرْفَةَ فَشَرَبَهُ۔ (مُتَّقِّنٌ عَلَيْهِ)

حضرت ام الفضل بنت حارث بیان کرتی ہیں کہ میرے ہاں عَرْفَه کے روز لوگوں میں اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ آیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں۔ ان میں سے بعض کا خیال تھا کہ حضور روزے سے ہیں اور بعض یہ کہتے تھے کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ اس پر میں نے (حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو دھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ آپ صلی

الله عليه وسلم اس وقت میدان عرفات میں اپنے اونٹ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (دودھ کا پیالہ لیا اور) دودھ نوش فرمایا۔ (متفق علیہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج (یعنی جنتۃ الوداع) کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے تو عرفہ کے دن (یعنی نویں ذی الحجه) کا روزہ لازماً رکھا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر ہی دودھ نوش فرمایا تو سب کو معلوم ہو گیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں۔۔۔۔۔ اسی سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ عرفہ کا روزہ باقی سب مقامات پر تو رکھا جائے گا لیکن جو لوگ حج انجام دے رہے ہوں ان کے لیے اس کا نہ رکھنا ہی درست ہے، کیونکہ عرفات کے میدان میں جو دودھ ہو پ کر ناپڑتی ہے اور بعض اوقات سخت گرمی کے عالم میں کھلے میدان میں رہنا پڑتا ہے اس کے ساتھ اگر آدمی نے روزہ بھی رکھ لیا ہو تو اس سے سخت مشکل پیش آسکتی ہے۔ یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ روزہ توڑنا پڑ جائے۔ اسی بنابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ نہیں رکھا اور پھر انپر عمل سے بھی سب پر یہ بات واضح فرمادی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہیں۔

**حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجه کے عشرہ اول کے پورے روزے کبھی نہیں رکھے:**

(86) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِئًا فِي الْعَشْرِ قَطًّا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ  
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجه کے ابتدائی دس دنوں کے (پورے) روزے رکھے ہوں۔ (مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات اس لیے بیان فرمائی کہ بعض دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجه کے پہلے دنوں کے روزے رکھنے کا التزام فرمایا کرتے تھے اور آپ نے اس کی ہدایت بھی فرمائی ہے۔ اس سے کوئی شخص یہ قیاس کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یا ہمیشہ پہلے پورے نومن کے روزے ضرور رکھنے ہوں گے۔

حضرت عائشہ کے اس قول کے بارے میں بعض حضرات نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم میں یہ بات نہ آئی ہو کہ آپ مسلسل نومن روزے رکھتے رہے ہیں اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل چاہے یہ نہ ہو کہ آپ ان پورے دنوں کے روزے رکھنے کا التزام فرماتے ہوں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے تو کسی کے لیے اس بات میں مضائقہ نہیں ہے کہ وہ مسلسل ان دنوں کے روزے رکھے۔

### نفی روزوں کا مسنون طریقہ:

(87) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ فَخَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَمَّا رَأَى عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَصَبَهُ قَالَ رَضِيَتَا بِاللَّهِ رَبِّيَا وَبِالإِسْلَامِ دِينِيَا وَمُحَمَّدًا نَبِيَّا تَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ عَصَبِ اللَّهِ وَعَصَبُ رَسُولُهُ فَجَعَلَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَرْدُدُ بَدَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ عَصَبُهُ فَقَالَ عَمَرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَمْنَعُنِي صَوْمُ الدَّبَّرِ كُلُّهُ قَالَ: لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ . أَوْ قَالَ: لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يَفْطَرْ . قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيَفْطَرُ يَوْمًا قَالَ: وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ . قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطَرُ يَوْمًا قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ دَاؤِدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطَرُ يَوْمَيْنِ قَالَ: وَدَدَتْ أَنِي طُوقَتْ ذَاكَ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَيْ رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّبْرِ كُلُّهُ صِيَامُ يَوْمَ عَرْفَةَ أَخْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفَّرَ السَّنَةُ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةُ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَخْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفَّرَ السَّنَةُ الَّتِي قَبْلَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت ابو ققادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس طرح روزہ رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات پر غصہ آیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نداراضی اور غصے کو دیکھا تو یہ کہنا شروع کیا، ”ہم اس بات پر راضی ہو گئے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہو، اسلام ہی ہمارا دین ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے بنی ہوں۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کے غصب سے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصب سے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات بار بار کہتے چلے گئے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غصے کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے) پوچھنا شروع کیا: رسول اللہ وہ شخص کیسا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے؟ آپ نے فرمایا، ”ناہ اس نے روزہ رکھا اور نہ اس نے روزہ چھوڑا۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، ”وہ شخص کیسا ہے جو دو دن مسلسل روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے؟“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا کوئی شخص اس کی طاقت رکھتا ہے؟ ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا:“ ”وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے؟“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ (رکھنے کا طریقہ) ہے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، ”وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن روزہ چھوڑے؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ کاش مجھے اس کی طاقت حاصل ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا: ”ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا اور پھر رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا صوم دھر (یعنی ہمیشہ روزے رکھنے) کے مترادف ہے۔“ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ایسا (اجر رکھتا ہے) ہے کہ میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ (اس کی برکت سے) اس سے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو بخش دے گا، اور عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس سے ایک سال پہلے کے گناہوں کی بخشش فرمادے گا۔ (مسلم)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی بات پر غصہ اس لیے آیا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا یہ چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ کس طرح رکھو، نہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے ہیں۔ ہدایت اسے یہ لینی چاہیے تھی کہ اسے روزہ کس طرح رکھنا چاہیے نہ کہ وہ یہ معلوم کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرزِ عمل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تو بہت سی عبادات ایسی تھیں جو صرف آپ کی ذات کے لیے خاص تھیں۔ مزید برآں نفلی اعمال کی اصل روح تو یہ ہے کہ انھیں چھپا کر کیا جائے نہ یہ کہ اعلان کر کے کیا جائے۔ اس لیے ان کا ظاہر کرنا بھی ناپسندیدہ ہے اور ان کے متعلق دریافت کرنا بھی غلط ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص سے یہ پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ آپ کے سامنے یہ اقرار کرے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں اور پھر اس کی رکعتیں اور دوسری تفصیلات بھی بتائے تہجد تو ہے ہی ایک ایسی نماز کہ آپ اسے لوگوں سے چھپا کر پڑھیں تاکہ آپ کے رب کے درمیان وہ ایک راز رہے اور دوسرے کوئی شخص اسے جان نہ سکے۔ جس طرح فرائض کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ علامیہ ادا کیے جاتے ہیں اس طرح نوافل کی روح یہ ہے کہ انھیں زیادہ سے زیادہ چھپا کر ان جام دیا جائے۔

اب اُس شخص کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں میں اس بات کا اعلان کریں کہ آپ نفی روزے کتنے اور کب کب رکھتے ہیں اور اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاص معمول کیا ہے۔ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری اور آپ نے اس پر غصے کا اظہار فرمایا تاکہ لوگ اس طرح سوالات کر کے لوگوں کے اعمال کی کریدنہ کریں جو وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان خلوص کی بنابر چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں۔

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بات بار بار کہی جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جاتا رہا تو اس کے بعد انہوں نے اب خود سوال کرنا شروع کیا اس طرح گویا انہوں نے یہ بتایا کہ یہی بات پوچھنے کا صحیح انداز کیا ہونا چاہیے تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ”نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ اس نے روزہ چھوڑا“ تو اس سے مراد یہ ہے کہا گر کوئی شخص مسلسل روزہ رکھتا چلا جائے اور کوئی وقفہ نہ کرے تو یہ گویا اس کی عادت ہی بن گئی۔ اس کی مثال تو اس شخص کی ہی ہے جس نے دن میں صرف ایک وقت کھانا کھانے کی عادت ڈال لی ہو۔۔۔۔۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح نفلی روزے رکھنے کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے۔ اب تو اُسے بھوک ہی اُس وقت لگے گی جو اس نے اپنے کھانے کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ باقی اوقات میں تو وہ گویا روزے سے ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو گویا نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ کبھی افطار کیا۔

پھر فرمایا کہ：“کیا کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ دو دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے؟” مراد یہ ہے کہ آدمی کا مسلسل یہ طریقہ اختیار کرنا ایک بہت بڑی مشقت ہے جس سے عہدہ برآ ہونے پر شاید ہی کوئی قادر ہو سکتا ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ دریافت کرنے پر کہ وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کرو یا نہ کرو بس یہی فرمانے پر اکتفا کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرے گا۔

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا کہ وہ شخص کیسا ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور دو دن چھوڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کو پسندیدہ تو قرار دیا لیکن فرمایا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس پر ہمیشہ عمل کر سکوں۔۔۔۔۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی طاقت رکھتا ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن اگر اتنی طاقت نہ رکھتا ہو تو ایسا نہ کرے۔

ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال مدینہ طیبہ ہی میں دریافت کیا تھا کیونکہ روزے بھرت کے بعد فرض کیے گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً ۵۳، ۵ سال کی ہو چکی تھی اور رسالت کے فرائض انجام دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زبردست محنت کرنی پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ہر تیرے دن روزہ رکھنے کی مستقل عادات اختیار فرمائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکوں۔ کاش مجھ میں یہ طاقت ہوتی۔

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوالات ختم ہو گئے تو اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کے متعلق ہدایات ارشاد فرمائیں: فرمایا کہ ہر مہینے کے تین روزے رکھنا اور پھر رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص ہمیشہ ہی روزہ رکھے۔

مراد یہ ہے کہ نفلی عبادات کے سلسلے میں لوگوں کو اتنی بھی چوڑی مشقتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ انھیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا میں وہ فرائض بھی انجام دینے ہیں جو خلاف الحیہ کے سلسلہ میں ان پر عائد ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ انھیں اپنے بال پھوٹ کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ اور دنیا کے دوسرے کام بھی انجام دینے ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے فرائض اور نوافل کے درمیان توازن اور اعتدال قائم رکھیں اور نوافل کے لیے اپنے آپ کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں کہ اس کا اثر فرائض پر پڑے۔ ہر مہینے کے تین نفلی روزوں اور رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کی فضیلت بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزید برآں اگر آدمی عرفہ کے دن کاروزہ بھی رکھے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اگر عاشوراء کے دن کاروزہ رکھے تو وہ ایک سال قبل کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عرفہ کاروزہ عاشوراء کے روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

یہاں کفارے کے متعلق کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جب عرفہ کے دن کاروزہ آدمی کے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا تو اب کھلی چھوٹ ہے کہ وہ عرفہ کاروزہ رکھے اور ایک سال تک جو جی چاہے کرتا رہے۔۔۔۔۔ پچھلے سال کا حساب بھی صاف اور اگلے سال کے لیے بھی چھٹی مل گئی۔۔۔۔۔ اس حدیث کا یہ مطلب لینا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ ایسی احادیث کے مخاطب دراصل وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کے بہانے تلاش کر رہے ہوں بلکہ ان کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کو رات دن یہ فکر رہتی تھی کہ ہم کون سا کام ایسا کریں جس سے ہمیں اپنے رب کی خوشنودی اور تقرب نصیب ہو جائے۔ چنانچہ اس طرح کی باتیں دراصل ان لوگوں کو شوق دلانے کے لیے فرمائی گئی ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔۔۔۔۔ یہ روزے ان گناہوں کا کفارہ نہیں بنتے جو آدمی جان بوجھ کر بے خونی اور ڈھٹائی کے ساتھ کرے۔ بلکہ یہ کفارہ ہیں ان خطاؤں اور اعمال کا جو آدمی سے بشری کمزوریوں کی بنا پر سرزد ہو جاتے ہیں دراصل حکیم اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری پوری فرمانبرداری کرے۔۔۔۔۔ پھر یہ کفارہ ہیں آدمی کی ایسی لغزشوں کا جن سے توبہ کرنے کا اسے موقع نہیں ملا، اور پھر وہ انھیں بھول گیا یا کسی وجہ سے اس سے غفلت ہو گئی۔ اب چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنیادی طور پر ایک فرمانبردار بندہ ہے اس لیے اس کے نیک اعمال اس کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ سراسر اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کیونکہ وہ مغفرت کرنا چاہتا ہے غلطیوں اور خطاؤں پر کپڑنا نہیں چاہتا۔ وہ حیم ہے اس لیے چاہتا ہے کہ کوئی کام بندے سے ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ اسے بخش دے چنانچہ ایک بندہ مومن کی نفل عبادات (خواہ وہ نفلی نمازیں ہوں یا نفلی روزے یا نفلی صدقات) سب کی سب اس کی لغزشوں اور خطاؤں کا کفارہ اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

### پیر کے روزے کی فضیلت:

(88) وَعَنْ أَبِي قَقَادَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْأَشْيَنِ فَقَالَ: فِيهِ وُلْدُثٌ وَفِيهِ أُثْلِلٌ عَلَىٰ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت ابو ققادہ النصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسی دن کے اندر میں پیدا ہوا اور اسی روزے مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ (مسلم)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس دن کاروزہ رکھو بلکہ صرف یہ فرمایا کہ اس دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ میرا یوم پیدائش بھی ہے اور نزولِ قرآن کے آغاز کا دن بھی ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس دن کاروزہ رکھے تو اس کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس میں یہ فضیلت پائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہ کرے تو اس پر کوئی گرفت بھی نہیں ہے۔

### ہر مہینے میں تین نفلی روزے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے:

(89) وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوَيَةِ أَتَاهَا سَأْلَتْ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَمْلَى مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ. زَوَّادَ مُسْلِمٌ

حضرت معاذہ عدویہ رحمہما اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے تین دن کے روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے پھر عرض کیا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے کون سے تین دنوں میں روزہ رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ مہینے کے کون سے تین دنوں میں روزہ رکھیں۔ (مسلم)

مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کے لیے کوئی خاص تاریخیں اور دن مقرر نہیں کر رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا الترام فرماتے تھے وہ یہ تھی کہ کوئی مہینہ ایسا نہ جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے نفلی روزے نہ رکھے ہوں۔

### رمضان کے ساتھ شوال کے چھ نفلی روزے رکھنے والا صائم الدہر ہے:

(90) وَعَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنصَارِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَشْبَعَ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصِيمَ الدَّهْرِ. زَوَّادَ مُسْلِمٌ

حضرت ابوایوب النصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر ان کے بعد شوال کے چھ دن کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے۔ (مسلم) اس سے پہلے ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا تھا کہ اگر آدمی ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھے اور پھر رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد شوال کے چھ دن کے مزید روزے رکھ لے تو یہ بھی ایسا ہے کہ جیسے اُس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔۔۔۔۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہ سمجھنا چاہیے۔ درحقیقت اپنی اپنی جگہ دونوں کی یہی حیثیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی چز پر عمل کرے گا تو اسے بھی ہمیشہ روزہ رکھنے کا اجر ملے گا اور اگر دوسرا چیز پر عمل کرے گا تو اس کا بھی یہی اجر ہو گا۔

یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ شوال میں چھ دن کے روزے رکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لازماً عید کے اگلے ہی روز شروع کیے جائیں اور ساتویں تاریخ تک مکمل کیے جائیں بلکہ وہ پورے مہینے کے اندر کسی وقت بھی رکھے جاسکتے ہیں اور ان کا باہمی تسلسل قائم رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔

### عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ نہیں:

(91) وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالثَّغْرِ۔ (مُتَّقِّ عَلَيْهِ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمادی تھا۔ (متفق علیہ)

(92) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا صَوْمٌ فِي يَوْمَيْنِ: الْفَطْرَ وَالضَّحْيَ" - (متفق علیہ)  
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ نہیں ہے۔ (متفق علیہ)

یہاں پھر اسلام کی شان اعتدال دیکھئے۔ اگرچہ روزہ بھی اسی طرح ایک عبادت ہے۔ جس طرح کہ نماز ایک عبادت ہے لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ نامناسب اوقات و مواقع پر عبادت انجام دینا نیکی شمار ہونے کے بجائے گناہ بن جاتا ہے۔ عید الفطر وہ دن ہے کہ جس میں تیس دن کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک زائد عبادت کے ذریعے سے اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس کے شکرانے کے طور پر آزادی کے ساتھ کھائیں پیشیں بھی۔ اب جس دن اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ آپ آزادی کے ساتھ کھائیں پیشیں اور دنیوی آسائشوں اور لذتوں سے شاد کام ہوں اس روز بھی اگر آپ بزم خود زہد پار سائی اختیار کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز سراسر اللہ تعالیٰ کی رضا کے غلاف ہو گی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ آرام و آسائش حاصل کریں اس وقت آپ کافر ہے کہ آپ آرام و آسائش حاصل کریں اور جس وقت وہ چاہتا ہے کہ آپ مشقت اٹھائیں تو اس وقت آپ کا یہ کام ہے کہ مشقت اٹھائیں۔ اگر آپ مشقت کے وقت بھی مشقت اٹھائیں اور آرام و آسائش کے وقت بھی مشقت اٹھائیں تو اس طرح گویا آپ اپنے رب سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں آپ کے کسی رعایت اور عنایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس سے بے نیاز ہیں۔۔۔۔۔ اس چیز کا سد باب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے دن روزہ رکھنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔

### ایام تشریق میں روزہ رکھنا درست نہیں:

(93) وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهَذَلِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكْلٌ وَشَرْبٌ وَذِكْرُ اللَّهِ . رَوَاهُ مُسْلِم  
حضرت نبیشہ ہذلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ (مسلم)

ایام تشریق سے مراد بقر عید کے بعد کے تین دن ہیں، یعنی ذی الحجه کی گیارہویں بار ھویں اور تیرھویں تاریخ۔۔۔۔۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا درست نہیں۔

### جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینا جائز نہیں:

(94) وَعَنْ أَبِي بُرِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْدَلَأَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ - (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے الا یہ کہ وہ اس سے ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھے۔ (متفق علیہ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن کوروزے کے لیے مخصوص کر لینا صحیح نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی خود اپنا شارع نہ بنے۔ شارع صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ شریعت میں اپنی طرف سے قیامت کر کے اضافہ کرنا شروع کر دے اس کا نتیجہ وہی کچھ ہو گا جو یہود و نصاریٰ کے ہاں ہوا کہ انہوں نے خدا کے دین میں تحریف کر کے اس کی شکل ہی بدل ڈالی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص نماز کے لیے جمعہ کے دن کو ایک خاص فضیلت عطا کی ہے۔ اب اگر ایک آدمی یہ خیال کر کے کہ یہ دن فضیلت رکھتا ہے اس لیے اس کوروزے کے لیے مخصوص کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس نے خدا کی شریعت میں اپنے طور پر ایک اضافہ کر لیا۔ ایک فضیلت تو اس دن کو ایک خاص غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور ایک فضیلت آب اس شخص نے اپنے طور پر دے دی۔ اگر یہ طریقہ رائج ہو جائے تو فتنہ رفتہ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ جس طرح رمضان کے روزوں کا التزام کیا جاتا ہے اسی طرح جمعہ کے روزے کا التزام بھی شروع ہو جائے گا اور یہ چیز نئی شریعت بنانے کے متاثر ہو گی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے نفلی روزے کا التزام کرنے سے منع فرمادیا۔ ہاں اس کی اجازت اس صورت میں دے دی جب کہ اس سے ایک دن پہلے یا بعد کارروزہ بھی رکھا جائے۔

### جمعہ کی رات کو قیام کے لیے اور دن کوروزے کے لیے مخصوص کر لینا درست نہیں:

(95) وَعَنْ أَيِّ بُنْيَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِّنْ بَيْنِ اللَّيَالِ وَلَا تَخْتَصُوا بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کی رات کو قیام (نفل عبادات اور تجد وغیرہ) کے لیے مخصوص نہ کر لو جو اس صورت کے کہ جمعہ کسی ایسی تاریخ کو پڑ جائے جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھا کرتا ہے۔ (مسلم)

اوپر اس سے متصل ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت گزری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التزام کے ساتھ جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس حدیث میں وہی بات زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ارشاد ہوئی ہے۔

اس سے شریعت کے مزاج کی نزاکت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شریعت میں اس معاملہ میں بہت زیادہ نزاکت پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں انسان پر عائد کی ہیں کوئی شخص اپنے طور پر ان میں اضافہ کر لے۔ اس سے پہلے دوسری قوموں کا جو حشر ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ لوگوں نے قیاس کر کر کے یا اپنے نفس کے ذاتی میلانات کی بنابر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود و فرائض پر اپنی طرف سے مزید حدود و فرائض کا اضافہ کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کی شریعت کے ساتھ ایک نئی شریعت اور بن گئی اور اس شریعت نے لوگوں کو باندھنا اور جکڑنا شروع کیا۔ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں اس چیز کو اصرار اور اغلال سے تعبیر کیا ہے، یعنی لوگوں نے اپنے ہاتھ سے طوق اور سلاسل بنائے اور اپنے گلے میں پہن کر انھیں اپنے اوپر کرنا شروع کر دیا۔ آگے چل کر وہ شریعت اتنی بو جھل بن گئی کہ آخر کار لوگ اس کے بندھنوں سے نکل بھاگے اور انہوں نے خدا کی پوری شریعت ہی کو اتار کر پھینک دیا۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب پابندیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو انسان آخر کار تنگ آ جاتا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ بعض مذہبی پیشواؤں کی طرف سے بڑھائی ہوئی پابندیاں عام لوگوں کے

سامنے اسی حیثیت سے پیش ہوتی ہیں کہ یہ خدا کی شریعت کا حصہ ہیں۔ چنانچہ جب لوگ ان سے نگ آ کر انھیں توڑتے ہیں تو وہ یہ تمیز کیے بغیر کہ انسانوں کی طرف سے بڑھائی ہوئی پابندیاں کون سی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ حدود کوں سے ہیں وہ سب کچھ توڑتاڑ کر پھینک دیتے ہیں اور بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اسی بد بختی میں یہود و نصاریٰ مبتلا ہوئے اور اسی خطرے میں دوسرے انبیاء علیہم السلام کی امتیں مبتلا ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت الٰہی میں یہ اصول مقرر کر دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیز فرض کی گئی ہے بس وہی فرض ہے اور کسی کو اس میں اضافہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو کچھ واجب کیا گیا ہے بس وہی واجب ہے، کوئی شخص اس پر اپنی طرف سے کسی قسم کا اضافہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ حرام وہی ہے جو خدا کی شریعت میں حرام کیا گیا ہے کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ مزید چیزوں کو حرام کر دے۔ اسی طرح مکروہ وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی طرف سے کچھ مزید مکروہات مقرر کر دے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کے حرام یا حلال ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے لازماً یہ بتانا پڑے گا کہ قرآن کی کس آیت اور کس حدیث کی رو سے وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ اگر وہ حدیث اور قرآن کا حوالہ نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ فلاں بزرگ نے اسے حلال یا حرام کہا تھا یا فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسے مانیں، جب تک کہ وہ دلیل لے کر نہ آئے اور یہ نہ بتائے کہ قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے یہ علت یا حرمت نکل رہی ہے۔۔۔۔۔ یہ ہے اس معاملے میں شریعت کا مزاج۔ اور یہ اس عظیم الشان حکمت کی وجہ سے ہے کہ خدا کے بندوں کو کسی ایسی پابندی میں نہیں جگڑنا چاہیے جو خدا نے ان پر عائد نہیں کی ہے۔ اگر لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی طرف سے بھی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا اور اس کا رسول ہی شارع نہیں کچھ دوسرے حضرات بھی شارع ہیں۔ لوگ محض خدا ہی کے بندے نہیں ہیں بلکہ کچھ دوسرے حضرات بھی ایسے ہیں جن کے وہ بندے ہیں اور انھیں بھی یہ حق ہے کہ وہ خدا کے بندوں پر اپنی طرف سے پابندیاں عاید کریں۔

یہاں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل کا استبطان کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے جیسا کہ فقہاء کا طریقہ ہے، بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے پیش نہ کی جاسکتی ہو دین میں اضافے کے مترادف ہے اور اس لیے ایک ایسی گمراہی ہے جس سے ایک بندہ خدا کو خود بھی پہنچا چاہیے اور دوسرے بندگان خدا کو بھی اس میں مبتلا کرنے کی ذمہ داری اٹھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔

اب دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے متعلق یہ کیوں فرمایا کہ جمعہ کی راتوں کی عبادت اور دن کے روزوں کے لیے مخصوص نہ کرلو ایا یہ کہ جمعہ کسی ایسی تاریخ کو آپ پر جس میں تم پہلے ہی روزہ رکھا کرتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن اس غرض کے لیے مقرر کیا ہے کہ لوگ اس میں ایک خاص نماز اجتماعی طور پر ادا کریں۔ دوسری نمازوں کے متعلق تو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں قریب کوئی مسجد نہیں ہے اور وہاں اذان کی آواز نہیں پہنچتی، یا آپ کسی جنگل میں ہیں تو آپ اپنی جگہ پر نماز ادا کر سکتے ہیں اور اگر دوچار آدمی آپ کے ساتھ ہیں تو آپ وہیں جماعت کر سکتے ہیں اور یہ لازم نہیں ہے کہ آپ مسجد ہی میں جائیں، لیکن جمعہ کی نماز ایسی ہے کہ یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی ادا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن اسی لیے مقرر کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان مسجد میں جمع ہو کر ایک خاص نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور امام کا خطبہ سنیں تاکہ ہفتے میں کم از کم ایک دن اللہ تعالیٰ کے

احکام باقاعدگی کے ساتھ انہیں یاد دلائے جائیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ چونکہ جمعہ کا دن فضیلت رکھتا ہے اس لیے کیوں نہ وہ اس دن روزہ بھی رکھے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ شریعت نے جمعہ کو جو فضیلت ایک خاص وجہ سے دی تھی اور اس دن کے لیے جو عبادت لازم قرار دی تھی اس نے اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لیا۔ پھر صرف اسی پر اکتفانہ کیا بلکہ رات کے لیے بھی ایک عبادت کو لازم ٹھہرا لیا۔ اب اگر اس کی گنجائش دے دی جاتی تو پہلے ایک آدمی یہ کام کرتا پھر دو چار کرتے اور کرتے پہاں تک کہ گروہ کشیر اس کام کو کرنا شروع کر دیتا۔ رفتہ رفتہ ایک دو صدی گزر نے کے بعد لوگوں کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کریں بلکہ روزہ بھی رکھیں۔ اس طرح یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا کہ کیا چیز اللہ نے فرض کی تھی اور کیا چیز لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے اوپر عائد کر لی۔ گویا ایک ایسی چیز شریعت کا جزو قرار پا جاتی ہے جو در حقیقت اس کا جزو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرمادیا کہ جمعہ کے دن کو ان نقی عبادات کے لیے مخصوص نہ کرلو۔ اگرچہ بجائے خود نہ روزہ رکھنا کوئی بُرانی ہے نہ راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا کوئی معیوب چیز ہے، بلکہ دونوں چیزیں عین پسندیدہ ہیں لیکن چونکہ جمعہ کے ساتھ مخصوص کر کے ان کا التزام کرنے سے شریعت میں اضافے کا خطرہ تھا اس لیے حضور نے وضاحت کے ساتھ اس سے منع فرمادیا۔

### خدا کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھنے کا غیر معمولی اجر:

(96) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْدَ اللَّهِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرَيْفًا۔ (متفقٌ عَلَيْهِ)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ستر سال کے فاصلے تک جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ (متفق علیہ)

اللہ کی راہ میں روزہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جہاد کے لیے نکلا ہے اور وہ اس جہاد کے لیے سفر کرتے ہوئے، یا کسی کمپ میں قیام کی حالت میں روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کا یہ روزہ رکھنا خدا کی راہ میں روزہ رکھنا ہے یا مثلاً ایک شخص جو یا عمرے کے لیے سفر کر رہا ہے اور اس سفر کے دوران میں روزے بھی رکھتا ہے، تو اس کا یہ روزہ رکھنا خدا کی راہ میں روزہ رکھنا ہے اور اس کے لیے ایک عظیم اجر اور فائدے کا موجب ہے۔

فی سبیل اللہ کا مطلب لوجہ اللہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی خالصتاً اللہ کی رضاکی خاطر روزہ رکھنا۔ ان دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے ستر سال کے فاصلے تک دور کر دے گا۔ یہاں اس بات کا تعین نہیں کیا گیا کہ یہ ستر سال کی مسافت کس رفتار سے ہے۔ آیا وہ اونٹ کی رفتار سے ہے یا انسان کے پیدل چلنے کی رفتار سے۔ کسی پرندے کے اڑنے کی رفتار سے ہے یا کسی جیٹ ہوائی جہاز یا روشنی کی رفتار سے ہے۔۔۔۔۔ اصل مدعاور حقیقت یہ ہے کہ اس عمل سے انسان جہنم کی آگ سے بہت دور ہو جاتا ہے، اتنی دور کہ گویا ستر سال کی مسافت درمیان میں حائل ہو جاتی ہے اور یہ صرف اتنے عمل کی بناء پر فرمایا گیا کہ اس نے اللہ کی راہ میں روزہ رکھا۔

ظاہر بات ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا ہے یعنی جہاد کے لیے جارہا ہے اس کے متعلق یہ فرض کیا جائے گا کہ وہ ایسا آدمی نہیں ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرنے والا ہو۔ اس سے اس بات کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے بجا طور پر وہ بہت بڑے اجر کا مستحق قرار پائے گا۔ قرآن

و حدیث میں نیکو کار لوگوں کے لیے نفلی عبادات پر جن انعامات اور بھاری آجر و ثواب کی بشارت دی گئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرنے والے ہوں۔ بلکہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کی عام زندگیاں نیکو کاری اور صلاح و تقویٰ کا نمونہ ہوں۔ یہاں فی سبیل اللہ کی قید خود بتارہی ہے کہ یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جونہ صرف یہ کہ فرانض ادا کرنے والا اور حرام سے بچنے والا ہے بلکہ وہ اپنی جان خدا کے رستے میں لڑانے کے لیے نکلا ہے۔ اس کے ساتھ اگر وہ نفلی روزہ بھی رکھتا ہے تو وہ یقیناً اس بات کا مستحق ہے کہ جہنم کی سے زیادہ سے زیادہ دور ہو جائے۔

اسی طرح اس اجر کا مستحق وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے حج یا عمرے کا سفر اختیار کرتا ہے اور اس دوران میں روزہ بھی رکھتا ہے جو لوگ حرام کھاتے ہوئے حج کے لیے نکلتے ہیں اور آکر بھی حرام کھاتے ہیں یہ اجر ان کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ انہوں نے فی سبیل اللہ یہ سفر اختیار کیا اور نہ انہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ٹھہرایا۔

### نفلی عبادات میں اعتدال کی ضرورت:

(97) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أَخْبَرْ أَنِّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَشُومُ اللَّيْلَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَلَا تَفْعِلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَفُمْ وَمَمْ فَإِنَّ لِجَسِيدِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِرُؤْبِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِرُؤْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا. لَا صَامَ مَنْ صَامَ النَّبِيرَ. صَوْمٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّبِيرِ كُلِّهِ. صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَافْرَأْ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ. فَقُلْتُ: إِنِّي أَطْبِقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: "صُمْ أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمًا ذَوْهٗ: صِيَامٌ يَوْمٌ وَإِفْطَارٌ يَوْمٌ. وَافْرَأْ فِي كُلِّ شَهْرٍ سَيْعَ لِيَالٍ مَرَّةً وَلَا تَرِدْ عَلَى ذَلِكَ". (مُتَّقِّنٌ عَلَيْهِ)

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا: اے عبد اللہ، کیا میں نے یہ تھیک سنائے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات رات بھر کھڑے ہو کر عبادات کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا باب ایسا میت کیا کرو، روزہ رکھو بھی اور نہ بھی رکھو اور راتوں کو کھڑے ہو کر عبادات بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر ایک حق ہے اور تمہارے ہاں ملاقات کے لیے آنے والے کا بھی تم پر ایک حق ہے جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے گویا کوئی روزہ نہیں رکھا۔۔۔ ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا گویا صوم و دھر (ہمیشہ روزہ رکھنے کے متراوف) ہے ہر مہینے تین دن کے روزے رکھو اور قرآن مہینے میں ایک مرتبہ پورا پڑھ لیا کرو۔۔۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا پھر تم افضل ترین روزہ رکھو اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا (یعنی روزہ نہ رکھنا) اور ہر سات راتوں میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا کرو اور اس پر اضافہ ہر گز نہ کرو۔ (متفق علیہ)

آنکھوں کے حق سے مراد یہ ہے کہ کبھی تم انھیں جاگتے ہوئے کھلار کھو اور کبھی انھیں سونے کے لیے بند رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دن بھر بھی جاگتے رہو اور پھر رات کو بھی آرام نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی جو عظیم الشان نعمت تمھیں عطا کی ہے تم اس کے ساتھ زیادتی اور ناقدری کا معاملہ کرنا چاہتے ہو۔

ملاقات کے لیے آنے والے کے حق سے مراد یہ ہے کہ اگر تم رات رات بھر کھڑے ہو کر عبادات کرتے رہے اور پھر دن کو تم نے روزہ بھی رکھا تو ظاہر ہے کہ تمہارے اندر طبیعت کی وہ تازگی اور شفافتگی باقی نہیں رہ سکتی جس سے کسی ملنے والے کا استقبال کیا جائے۔ ایسا ہو سکتا

ہے کہ مثلاً گرمی کا زمانہ ہے اور آپ روزے سے ہیں۔ اس حالت میں جو شخص بھی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے آپ اس سے اُس شفائی اور دل کی کشادگی سے پیش نہیں آ سکتے جس سے دوسری حالت میں پیش آ سکتے ہیں ظاہر بات ہے کہ آنے والے کو تو یہ معلوم ہونا ضروری نہیں کہ آپ روزے سے ہیں اگر آپ نے بے دلی کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور روکھے پن سے اس سے گفتگو کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بُرا مانے اور یہ محسوس کرے کہ یہ عجیب انسان ہے جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ چل کر ملنے کے لیے آنے والے سے کس اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔

نفلی روزہ رکھنے والوں کو خاص طور پر اس کا عملی تجربہ ہوا ہو گا کہ خصوصاً گرمی کے زمانے میں جب آدمی ایک لمبے دن کے روزے سے ہو اور کوئی شخص افطار کے قریب ملنے کے لیے آجائے تو بعض اوقات آدمی اس سے بڑے روکھے پن سے ملتا ہے۔ اب چونکہ نفلی روزے میں آدمی خود تو یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ روزے سے ہے اور آنے والے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ شخص روزے سے ہے اس لیے اس سے بعض اوقات بڑی شکایت پیدا ہوتی ہے اور تعلقات میں کشیدگی تک واقع ہو جانے کا اندازہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ نگاہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں گناہ کرتا دیں کہ اگر ہمیشہ روزہ رکھو گے اور راتوں کو کھڑے ہو ہو کر نمازیں پڑھتے رہو گے اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو گے تو اس طرح اپنے جسم، اپنی آنکھوں، اپنی بیوی اور اپنے ملنے والوں سب کے ساتھ زیادتی کرو گے اور ان میں سے کسی کا حق ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر سکو گے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آدمی پر ہر وقت خشکی طاری رہے تو نہ عام لوگوں کے ساتھ ہی اس کے تعلقات خوشگوار رہ سکتے ہیں اور نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی وہ صحیح سلوک کر سکتا ہے۔ ہر شخص بجا طور پر دوسرے سے ابھی برداشت کی توقع رکھتا ہے لیکن جب یہ توقع پوری نہیں ہوتی تو فطری طور پر اس کے جذبات مجرور ہوتے ہیں۔

پھر فرمایا جو شخص ہمیشہ روزہ رکھے اس نے گویا کوئی روزہ نہیں رکھا۔ اس کی وجہ اس سے پہلے بھی بیان کی جا یہی ہے کہ اگر آدمی نے عادت ہی ایک وقت کھانا کھانے کی بنیالی ہو تو گویا یہ بات اس کے معمول میں داخل ہو گئی اب اگر وہ روزہ رکھتا بھی ہے تو اس کا روزہ کہاں ہوا۔ روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ آپ کسی وقت اپنے معمول کے خلاف اپنے نفس پر یہ بار ڈالیں کہ وہ کھانا پینا ترک کرے اور کچھ دوسری پابندیاں قبول کرے، لیکن اگر آپ کو عادت ایک ہی وقت کھانا کھانے کی پڑ گئی ہے تو آپ کے لیے روزے کی اہمیت عملاً ختم ہو گئی۔ اب اس میں کوئی غیر معمولی چیز کیا رہے ہی۔ اس لیے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی روزہ نہیں جو ہمیشہ روزہ رکھے۔۔۔۔۔ پھر یہ ارشاد ان معنوں میں بھی ہے کہ اس طریقے سے روزہ رکھنے والے کے لیے روزے کا کوئی اجر نہیں ہے کیونکہ نیکی وہی نیکی شمار ہو گی جو شریعت کے مطابق ہو اور شریعت کی روزے یہ بات درست نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ روزہ رکھے۔

پھر فرمایا: ہر مہینے کے تین دنوں کا روزہ رکھنا گویا صوم دہر ہے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے سے تم جس بڑے سے بڑے ثواب کی امید کر سکتے ہو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب تمھیں ہر مہینے کے تین دن کے روزے رکھنے پر بھی دے گا۔

یہ جو فرمایا کہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا کرو تو اس سے مراد تہجد کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ اس غرض کے لیے روزانہ تہجد میں ایک پارہ پڑھ لینا کافی ہے۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے جواب میں حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر **فضل الصوم** رکھ لیا کرو اور وہ صوم داؤد ہے اس کی تشریح یہ فرمائی کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو۔ یعنی اگر تم ہر ماہ تین دن سے زیادہ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہو تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے پر عمل کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا: ہر سات راتوں میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا کرو اور اس پر اضافہ ہو گزناہ کرو۔ یعنی زیادہ سے زیادہ تمصیل اس بات کی اجازت ہے کہ سات راتوں میں ایک دفعہ قرآن ختم کر لیا کرو لیکن اس پر اضافہ کرنے کی اجازت نہیں۔

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خدا کی شریعت اعتدال کو پسند کرتی ہے انتہا پسندی کو نہیں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آدمی تمام حقوق و فرائض میں توازن برقرار رکھے۔ سب کے حقوق ادا کرے جسم کا حق بھی ادا کرے اور انسانوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی کسی ایک حق کو ادا کرنے میں ایسا غیر متوازن ہو جائے کہ باقی حقوق کو نقصان پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مختلف فرائض عائد کیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے بس نماز اور روزہ ہی فرض کیا ہو اور اس کا اجر بس انہی چیزوں کے ساتھ مخصوص ہو۔ آدمی کو اپنی روزی کمانے کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہوتی ہے اور یہ بھی اس کا فرض ہے۔ اگر وہ ہمیشہ روزہ رکھے گا اور راتوں کو کھڑے ہو کر لمبی لمبی نمازیں پڑھے گا تو اس میں اتنی طاقت کہاں باقی رہے گی کہ وہ اپنی روزی بھی کمائے اور شریعت کے عائد کیے ہوئے دوسرے فرائض بھی ادا کر سکے۔ اس لیے عبادت میں بھی اعتدال ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے یہی چیز ہمیں سکھائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وظیفے بھی بتائے ہیں مگر کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو ہزار دنہ تسبیح سے رات بھر پڑھا جائے۔ آپ نے اگر زیادہ سے زیادہ تعداد میں کوئی وظیفہ بتایا ہے تو ۳۳، ۳۳ اور ۴۴ مرتبہ پڑھنا بتایا ہے خود وظائف بھی چھوٹے چھوٹے بتائے ہیں اور جو ذرا زیادہ لمبے ہیں ان کی تعداد اس سے بھی کم کر دی ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادات میں ایک خوشنگوار اعتدال اور توازن کو ملحوظ رکھا۔ جن لوگوں نے بعد میں ان چیزوں میں اضافہ کیا ہے درحقیقت انہوں نے خدا کی شریعت کے مزاج کو نظر انداز کر کے اعتدال کو چھوڑ کر اہم بانہ انتہا پسندی اختیار کر لی ہے۔

## الفصل الثاني

### پیر اور جمعرات کے نفلی روزوں کی فضیلت:

(98) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصُمُ الْأَثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ  
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ (ترمذی، نسائی)

آگے ایسی حدیثیں آرہی ہیں جن میں نفلی روزوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف طرزِ عمل منقول ہوئے ہیں، اس لیے اس سلسلہ میں ایک بات ابتداء میں سمجھ لینی چاہیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا جانے کے بعد جب لوگوں نے مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں پوچھا تو جس صحابی کے علم میں جو چیز تھی اس نے وہ بیان کر دی۔ اس لیے اگر آپ کو ان احادیث میں کہیں

اختلاف نظر آئے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ ان میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی روزوں کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک ہی لگبند حاصل معمول نہیں تھا۔ کبھی آپ کسی طرح عمل کرتے تھے اور کبھی کسی طرح۔ کیونکہ نوافل کے معاملے میں آزادی ہے۔ فرض میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مقرر کر دی گئی وہی مقرر ہے لیکن نوافل میں یہ پابندی نہیں ہوتی۔ نوافل کے معاملے میں مختلف زمانوں میں اور مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف رہا، چنانچہ جن لوگوں کے علم میں حضور کا جو معمول تھا انہوں نے وہی بیان کیا۔

یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ پیر اور جمعرات کے دن رکھا کرتے تھے۔۔۔۔۔ پیر کے دن کے متعلق پہلے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ میں پیر کے روز پیدا ہوا ہوں اور پیر ہی کے روز مجھ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس لیے کہ پیر کے دن کی یہ فضیلت ہے۔۔۔۔۔ جمعرات کی فضیلت آگے آرہی ہے۔

### پیر اور جمعرات کے دنوں کی فضیلت:

(99) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُعَرِّضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعَرِّضَ عَمَلَيِّ وَأَنَا صَائِمٌ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پیر اور جمعرات کے روز اعمال کی پیشی ہوتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ (ترمذی) اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن کو نفلی روزے کے لیے کیوں ترجیح دیتے تھے۔۔۔۔۔ رہا یہ سوال کہ پیر اور جمعرات کے روز اعمال کی کیسی پیشی ہوتی ہے تو اس کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے، کوئی دوسرا شخص وضاحت کے ساتھ اس کو نہیں جان سکتا، کیونکہ اعمال کی پیشی کا ذکر مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کس کس نوعیت کی بیشیاں ہوتی ہیں۔

### ہر مہینے کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخوں میں روزہ رکھنے کی ہدایت:

(100) وَعَنْ أَبِي ذِئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذِئْرَةً إِذَا حُمِّلَتْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَقُسْمُ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَهُمْ عَشْرَةٌ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالسَّائِئِ .

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے ابوذر! اگر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنا چاہو تو تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخ کے روزے رکھا کرو۔ (ترمذی ونسائی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد لوگوں کو یہ بات سکھائی ہے کہ اگر مہینے میں تین روزے رکھنے ہوں تو تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخوں کو رکھے جائیں۔ اگرچہ ایسا کرنالازم نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پسند فرمایا ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ابتدائی تین دنوں کے روزے رکھتے تھے:

(101) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ عُرَفَةَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يَفْطُرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالسَّائِقُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے آغاز میں تین روزے رکھا کرتے تھے اور کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن روزہ نہ رکھیں۔ (ترمذی، نسائی۔۔۔ ابو داؤد سے یہ روایت ثلاثیت ایام کے الفاظ تک ہے)

اس حدیث میں دو باتیں وضاحت طلب ہیں:

پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی گزشہ حدیث میں یہ آیا ہے اور دوسرا ہی احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے اور اسی چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت بھی فرمائی ہے لیکن اس حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے آغاز میں روزہ رکھا کرتے تھے۔

اس اختلاف کی وجہ کیا ہے۔۔۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفلی روزہ کسی اعلان کے ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ نہ آدمی خود اعلان کرتا ہے اور نہ کوئی لازمی موقع ایسا پیدا ہوتا ہے جس سے دوسروں کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص روزے سے ہے حتیٰ کہ بعض اوقات خود بیوی تک کویہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ اگر شوہرن کہیں باہر دن گزارا ہے اور گھر آکر کھانا نہیں کھایا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ لازماً اس نے کہیں باہر سے کھانا کھالیا ہے۔۔۔ چنانچہ لازمی طور پر کسی شخص کے روزے کا پتہ نہیں چل سکتا۔۔۔ اب جن لوگوں کو بعض آثار سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں تو وہ اپنی جگہ یہ رائے قائم کرتے تھے کہ نفلی روزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے۔ اس طرح ہر ایک کا اپنا اپنا قیاس اور اندازہ ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے جو بات جس طرح کسی کے علم میں آئی اس نے اسی طرح سے بیان کر دی۔ چنانچہ اگر کسی کے علم میں یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں کا روزہ رکھتے تھے تو اس نے اسی کو بیان کیا اگر کسی کے علم میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے آغاز میں روزہ رکھتے ہیں تو اس نے اسی کو بیان کر دی۔۔۔ لیکن یہ عین ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں پندرہ پندرہ دن کے روزے رکھ لیتے ہوں۔ کبھی مہینے کے آغاز میں، کبھی درمیان میں اور کبھی جمعہ کو بھی۔ اس طرح یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کی جاسکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں صرف تین ہی دن کے روزے رکھتے تھے اور وہ فلاں فلاں تاریخ کے ہوتے تھے۔ اس لیے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه کا یہ بیان ان احادیث کے خلاف نہیں پڑتا جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں کا روزہ رکھتے تھے اور نہ یہ بیان ان احادیث کے خلاف پڑتا ہے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔

دوسری بات حضرت عبد اللہ بن مسعود نے یہ فرمائی کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا روزہ نہ رکھتے ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کر لینے سے منع فرمادیا تھا۔ غور کرنے سے یہ اشکال بآسانی رفع ہو سکتا ہے۔ چونکہ حضور کا روزہ رکھنا اعلان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا اور عام پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس دن کا روزہ رکھا ہے۔ اس لیے جب حضرت عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه کو یہ چیز بکثرت دیکھنے کا

اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو روزہ رکھا ہے تو انہوں نے اپنے قیاس سے یہ رائے قائم کی کہ آپ جمعہ کو اکثر و بیشتر روزہ رکھتے ہیں لیکن یہ کوئی قطعی رائے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے روزے رکھتے چلے آرہے ہوں اور جمعہ کا روزہ بھی ان میں آگیا ہوا اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم میں صرف جمعہ کا روزہ آیا ہو۔ اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت جمعہ کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اس امکانی صورت کی موجودگی میں ان کا یہ بیان ان احادیث کے خلاف نہیں پڑتا جن میں التزام کے ساتھ جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔

### نفلی روزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ:

(102) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالاثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخِرِ الشُّلُّالَاءَ وَالْأَرْبَعَاءَ وَالْحَمِيسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے ہفتہ، اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے تھے اور دوسرے مہینے منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ (ترمذی)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو روایت اس سے پہلے گزری ہے وہ اس سے بالکل مختلف کیوں ہے؟۔۔۔۔۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مدت دراز یعنی تقریباً ۴۷، ۴۸ سال تک بقید حیات رہیں۔ چونکہ لوگوں کو حضور کے معمولات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کی مستقل جستجو اور کوئی رہتی تھی اس لیے وہ سینکڑوں ہزاروں، میلیوں سے سفر کر کر کے مدینہ آتے تھے اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، کیونکہ ان کے متعلق لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زیادہ تفصیل سے جانتی اور بیان فرماتی ہیں۔ چنانچہ اس طویل مدت کے دوران میں مختلف اوقات میں بے شمار لوگوں نے آکر ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کیے ہیں۔ اب چونکہ ہر حدیث میں ہر بات کا پس منظر توبیان نہیں کیا جاتا بلکہ صرف اتنی بات مذکور ہوتی ہے جو اس حدیث کے باب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو اس لیے اس چیز کا تعین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اصل مفصل گفتگو کیا ہوئی تھی جس کا ایک حصہ راوی نے روایت کیا ہے اس بنابر مختلف روایات کے اختلاف کو مختلف احوال و شیوهوں کے لحاظ سے مختلف نوعیت کے جوابات اور بیانات پر محمول کیا جائے گا اور اسے تضاد قرار نہیں دیا جائے گا۔۔۔۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی شخص کے پوچھنے پر یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے تو وہ شخص وہی بات پلے باندھ کر لے گیا اور اس نے اس کو جا کر روایت کیا۔ اسی طرح کسی دوسرے شخص سے کسی اور موقع پر حضرت عائشہ نے یہ ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے فلاں دنوں کے روزے رکھتے تھے اور کسی مہینے فلاں دنوں کے، اور اگر ایک مہینے میں ایک دفعہ تین دن کے روزے رکھ لیتے تھے تو پھر دوسرے مہینے میں دوسرے تین دنوں کے روزے رکھ لیتے تھے تاکہ ہر دو مہینوں میں ہفتے کا کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں آپ نے روزہ نہ رکھا ہو، تو اس شخص نے اسی چیز کو روایت کیا۔۔۔۔۔ چنانچہ دراصل اس طرح کی مختلف روایات مختلف موقع سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے متعلق یہ سوال اٹھانا کوئی معقول بات نہیں کہ نفلی روزوں کے بارے میں حضرت عائشہ کے علم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف معمولات آئے تھے انہوں نے وہ ہر گفتگو میں ہر ایک کے سامنے سب کے سب کیوں نہ بیان فرمادیے۔۔۔۔۔ ایسا ہی معاملہ

دوسرے صحابہ کا ہے۔ ان سے بھی مختلف روایات مردی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ ان سے بکثرت مسائل پوچھتے رہے۔ کسی سے دس سال تک پوچھتے رہے، کسی سے تیس سال تک اور کسی سے چالیس سال تک۔ اس طرح ان ہزاروں لوگوں نے مختلف صحابہ سے مختلف موقع پر جوابات سنی اُسے انھوں نے اسی طرح سے روایت کیا یہ چیز کسی تضاد کا نہیں بلکہ اس امر کا ثبوت ہے کہ سننے والوں نے جوابات معلوم کی تھی انھوں نے اُسی کو آگے پہنچایا۔

### نفلی روزوں کے متعلق حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت:

(103) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوْلَاهَا الْأَشْتِينُ وَالْحَمِيسُ.  
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّسَائِي

حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر مہینے تین دن کے روزے رکھا کرو اور ان کی ابتداء پر سے یا جمعرات سے کیا کرو۔ (ابوداؤد والنسائی)

اس روایت کو گزشتہ روایات کے ساتھ ملا کر دیکھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کے بارے میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہدایت ارشاد فرمائیں۔ اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ نفلی روزوں میں کوئی لگا بندھا طریقہ نہیں ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو چند مخصوص دنوں ہی میں روزہ رکھنے کے لیے کہا ہوتا تو یہی قانون بن جاتا اور پھر جو شخص بھی نفلی روزہ رکھتا انہی دنوں میں رکھتا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے بتائے تاکہ جب وہ جمع کیے جائیں تو معلوم ہو کہ اس معاملے میں کوئی ایک ہی مقرر طریقہ نہیں ہے۔

### کون سا شخص صائم الدہر ہے؟

(104) وَعَنْ مُسْلِمِ الْقُرْشَىِ قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ الدَّبْرِ فَقَالَ: إِنَّ لِإِلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِى يَلِيهِ وَكُلَّ (ص: 638) أَرْبَاعَةَ وَهُمْ يُسِّرُّ فَإِذَا أَئْتَ قَدْ صُمْتُ الدَّبْرَ كُلُّهُ۔ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالترِمْذِيُّ

حضرت مسلم قرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے یا کسی اور شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صوم دھر (یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے) کے متعلق سوال کیا (کہ اس کا کیا حکم ہے؟) اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ رمضان کے روزے رکھا اور اس سے ملحقہ مہینے یعنی شوال کے (چھ دنوں کے روزے رکھا اور پھر ہر بدھ اور جمعرات کو بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ اس طرح گویا تمہیش روزہ رکھنے والے شمار ہو گے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں چونکہ رہبانیت کا بہت زور تھا اس لیے اہل مذاہب میں راہب سنیا سی اور جو گی وغیرہ قسم کے لوگ صوم دھر کو بڑی فضیلت اور اہمیت دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ نیک آدمی وہ ہے جو صائم الدہر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سے صوم دھر کے متعلق بکثرت پوچھا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بکثرت اس کے متعلق احکام بتائے ہیں۔۔۔۔۔ پیش نظر حدیث کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے پوچھنے والے سے فرمایا کہ تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی جو شخص صوم دھر رکھتا ہے وہ بال بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں تفصیل سے یہ بتایا جا چکا ہے کہ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا، اور تمہارے پاس ملاقات کے لیے آنے والوں کا تم پر حق ہے اور صوم دھری کے ساتھ یہ

حقوق تم خوش اسلوبی سے ادا نہیں کر سکتے۔ اس طرح گویا حضور نے عبادات کے سلسلے میں انہیا پسندی کا راستہ بند فرمادیا اور ہر ایسے شخص کے لیے جو فرائض سے زائد عبادت کرنا چاہتا ہے ایک اعتدال کا طریقہ مقرر فرمادیا۔

صائم الدہر بن کر بیٹھ رہنا ان لوگوں کا کام ہے جنھیں دنیا اور اُس کے معاملات سے کوئی سروکار نہ ہو، اور ایسا وہی لوگ کر سکتے ہیں جو گوشوں میں جا کر بیٹھ رہیں لیکن جن لوگوں کو دنیا میں خدا کیخلافت کا حق ادا کرنا ہے وہ یہاں شادی بیاہ بھی کریں گے، بال بچوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، کار و بار اور تجارتیں اور ملازمتیں بھی کریں گے، عدالت کی کرسیوں پر بھی بیٹھیں گے اور حکومت کا کار و بار بھی چلاں گے۔ غرض دنیا میں خلافتِ خداوندی کے جو کام ہیں وہ سب انھیں انجام دینے ہوں گے۔ ایسے لوگ صائم الدہر کیسے بن سکتے ہیں۔ پھر صائم الدہر بننے والے شخص کے بارے میں انسان جس بڑی سے بڑی نیکی اور اجر کی توقع کرتا ہے اس کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ ساری نیکی اور سارا آجر ایک بندہ مومن کو اس صورت میں بھی حاصل ہو جائے گا جب کہ وہ اپنے باقی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ رمضان کے فرض روزوں کے بعد شوال کے چھ روزے اور ہر مہینے پہنچ اور جمعرات کے روزے بھی رکھ لے۔

اس حدیث میں ساکل کو پہنچ اور جمعرات کاروزہ بتایا گیا۔ اس سے پہلے کسی کو پیر اور جمعرات کاروزہ بتایا گیا اور کسی کو بعض دوسرا دنوں کا۔ اس طرح مختلف لوگوں کو مختلف دنوں کے روزے بتائے گئے۔ گویا مختلف اشخاص کے لیے مختلف نسخے ہیں۔ وہ حکیم کہ جس کے پاس ہر مریض کے لیے ایک ہی لگابند حانجہ ہوتا ہے کوئی دانا حکیم نہیں ہوتا۔ دانا حکیم تو وہ ہوتا ہے جو مریض کے مزاج، اس کے حالات، اس کے ماحول کی طبعی خصوصیات، ملکی آب و ہوا کے خصائص وغیرہ غرض ہر چیز کو سامنے رکھ کر نسخہ تجویز کرتا اور دوا اور خوراک مقرر کرتا ہے۔۔۔۔۔ بعینہ اسی طرح مختلف پوچھنے والوں میں سے ہر ایک کے حسب حال حضور نے نفلی روزوں کے متعلق مختلف طریقے ارشاد فرمائے اور ان میں سے ہر طریقہ اپنی اپنی جگہ پر یکساں آجر و ثواب کا موجب ہے۔

### میدانِ عرفات میں یومِ عرفہ کاروزہ رکھنا درست نہیں:

(105) وَعَنْ أَيِّ بُنْيَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَبَّى عَنْ صَوْمٍ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاودُ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں عرفہ کے دن کاروزہ رکھنے سے منع فرمادیا تھا۔ (ابوداؤد)

اس سے پہلے بعض احادیث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ عرفہ کے دن کاروزہ بڑی فضیلت رکھتا ہے اور اس روزے کی فضیلت یہاں تک بیان ہوئی ہے کہ یہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس بنابر لوگ اس کی بہت پابندی کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو یہ روزہ رکھنے سے منع فرمادیا۔

پہلے بھی یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ حج ایک بڑی مشقت کا کام ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالتِ حج میں روزہ رکھنے سے منع فرمادیا تھا۔ اصل میں آدمی کو ایک عبادت کا حق۔۔۔۔۔ جسے وہ انجام دے رہا ہو، پوری طرح ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ حج کر رہا ہے تو وہ حج ہی کا حق پوری طرح ادا کرے۔ حج کے اندر کٹوئی کر کے کچھ نفلی روزے کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، جس سے آدمی نہ پوری طرح حج کا حق ادا کر سکے اور نہ نفلی روزے کا درست نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ حج تو خود ایک بہت بڑی نیکی اور بڑا اہم فرائض ہے۔ اس کے ساتھ ایک نفلی عبادت بڑھا کر اپنے لیے ایسی مشقت پیدا کر لینا جس کی وجہ سے ایک شخص اس فریضے کے مناسک میں سے کوئی چیز

چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، کوئی معقول بات نہیں۔ یہاں تو دراصل نیکیوں میں بھی ایک توازن مطلوب ہے اور اسے ملحوظ رکھ کر ہی آدمی کو نیکی انجام دینی چاہیے۔

### ہفتہ کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں:

(106) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُبْرٍ عَنْ أَخْبَرِ الصَّمَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عَيْنَةً أَوْ عُودَ شَجَرَةً فَلَيَمْضُغَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْتِرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْمَارْمِي

حضرت عبد اللہ بن بُسر لپنی بہن حمار خی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہفتہ کے دن روزہ نہ رکھو لا یا کہ ہفتہ اس دن آجائے جس میں روزہ رکھنا تم پر فرض ہو۔ اگر کسی شخص نے غلطی سے ہفتہ کے دن کا روزہ رکھ لیا ہو اور روزہ توڑنے کے لیے اسے انگور کا چھالا یا کسی درخت کی چھال ہی مل جائے تو وہ اسی کو چبا کر روزہ توڑ دے۔ (احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

”جس دن میں روزہ رکھنا فرض ہو“ کے الفاظ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہفتہ اگر رمضان کے اندر آجائے، جیسا کہ آتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اگر تمھیں رمضان کے روزوں کی قضاوی کرنی ہے یا کفارے کے روزے رکھنے ہیں اور یقیق میں ہفتہ آرہا ہے تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن خاص طور پر سبست یعنی ہفت کے دن کا قصد کر کے روزہ رکھنا درست نہیں۔ یہ ممانعت یہاں تک ہے کہ اگر کسی شخص نے غلطی سے ہفتے کا روزہ رکھ لیا ہو تو اسے توڑ دینا چاہیے۔۔۔۔ یہ اس لیے کہ ہفتہ یہودیوں کے نزدیک مقدس دن ہے اور ان کے ہاں اس کا روزہ رکھنے کا التزام کیا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہفتے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے مخصوص کر لینا یا اس دن اکثر روزہ رکھنا، یا کبھی کبھار بھی اس کا تنخاب کر کے روزہ رکھنا منوع ہے اور اگر کسی شخص نے یہ روزہ رکھ لیا ہو تو اسے چاہیے کہ توڑ دے۔

معلوم ہوا کہ اس معاملے میں شدت ہے اور اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہا گر کسی نے غلطی سے روزہ رکھ لیا ہو تو وہ اسے پورا کرے۔ یہ شدت اس لیے اختیار کی گئی کہ اہل اسلام اور یہود و نصاریٰ کے درمیان مشابہت پیدا نہ ہو۔ کیونکہ مسلمانوں کو ایک امت کی حیثیت سے اپنا امتیاز قائم کرنا چاہیے اور اسے سختی سے قائم رکھنا بھی چاہیے۔ مسلمان ان امتیازی سرحدوں کو جتنا زیادہ دھندا کرتے چلے جائیں گے۔ اتنا ہی وہ یہود و نصاریٰ میں گم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے درمیان یہ تمیز کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ کون کیا ہے۔

### خدائی راہ میں ایک دن کے روزے کا غیر معمولی اجر:

(107) وَعَنْ أَبِي أُمَّامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنَدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان اتنی وسیع خندق حائل کر دیتا ہے جتنی آسمان اور زمین کی دوری ہے۔ (ترمذی)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو متعدد مرتبہ مختلف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کارروزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے ستر سال کے فاصلے تک دور کر دیتا ہے۔ اُس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فی سبیل اللہ کا مطلب یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس سے جہاد فی سبیل اللہ بھی مراد ہے اور حج اور عمرے کا سفر بھی۔ اسی طرح علم دین کی تحصیل کے لیے سفر کرنا اور لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلا بھی، ”فی سبیل اللہ“ کی تعریف میں آتا ہے۔ بہر حال جس آدمی کا سفر اللہ کی راہ میں ہوا اور وہ اس حالت میں نفلی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنے بڑے اجر سے نوازے گا۔

یہ بات بھی پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ یہ احادیث اس غرض کے لیے نہیں بیان کی گئی ہیں کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ بس کسی ایک وقت میں تبلیغی سفر پر نکل گئے اور اس سفر میں ایک دن کا نفلی روزہ رکھ لیا تو اب ہمیشہ کے لیے جہنم سے خلاصی ہو گئی۔ ان احادیث کا یہ مفہوم مراد یہ نادرست نہیں ہے۔ اصل مدعایہ ہے کہ جو لوگ فی الواقع خدا کی طرف سے عالمہ کردہ فرائض بھی انعام دے رہے ہوں اور اللہ کی راہ میں اپنے اوقات اور محنتیں اور قابلیتیں بھی صرف کر رہے ہوں ان کے لیے ایک ایک نفلی عبادت کا اتنا کچھ اجر ہے۔ آسمان اور زمین کی دوری کے برابر خندق بنادینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی خندق کھودی جاتی ہے بلکہ اس کا مدعایہ ہے کہ اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ حاصل کر دیا جاتا ہے اور وہ اُس قدر دوزخ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔۔۔ آگے بھی اسی مضمون کی ایک حدیث آرہی ہے جس میں دوسرے طریقے سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔

### سرما کارروزہ۔۔۔ غنیمتِ بارِ دہ

(108) وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغُنْيَةُ الْبَارِدَةُ الْقِسْتَاءُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ: بَدَا حَدِيثُ مُرْسَلٍ

حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جائزے کے زمانے کارروزہ غنیمتِ بارِ دہ ہے۔ (احمد، ترمذی)

غنیمتِ بارِ دہ اس مال کو کہتے ہیں جو مفت میں ہاتھ آجائے اور اس کے لیے کوئی محنت و مشقت نہ کرنی پڑے۔ نہ تو اس پر کچھ خرچ اٹھے اور نہ اُس کے لیے جان جو کھوں میں ڈالنی پڑے۔

جائزے کے زمانے میں روزے کی نوعیت بھی مفت ہاتھ آئے ہوئے مال کی سی ہے کیونکہ اس میں کوئی زیادہ تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔ یہاں اس روزے سے مراد رمضان کارروزہ بھی ہے اور نفلی روزہ بھی۔ رمضان کے روزے بھی آدمی کو مفت کا ثواب دلوادیتے ہیں اور نفلی روزوں کا بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ ان میں گرمائی سی سختی اور تکلیف سے سابقہ پیش نہیں آتا۔

### الفصل الثالث

عاشراء کارروزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے:

(109) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صَيَاماً يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَدَا الْيَوْمُ الَّذِي تَشْوِمُونَهُ؟ فَقَالُوا: بَدَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ وَعَزَّى فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا

فَنَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بھرت کے بعد) مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کاروزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: یہ کیسا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ عظیم الشان دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دلائی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روز اللہ کا شکردا کرنے کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تب ہم تم سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کے حق دار اور اہل ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کاروزہ رکھنا شروع کیا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ (متفق علیہ)

اس بیان سے خود بخود یہ معلوم ہوا کہ یہ مدینی زندگی کے آغاز کی بات ہے اور اس وقت ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ نیز اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت نہیں آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصاریٰ سے اپنا طریقہ الگ کر لیں۔ اس ہدایت کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا کہ جب تک کسی معاملے میں اللہ کا حکم نہ آئے اہل کتاب کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ یہ آپ کا معمول تھا اور اسی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھتے رہے تا آنکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحویل قبلہ کے احکام آگئے۔

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شریعت میں بھی بعض دنوں کو یادگار کی حیثیت دی گئی ہے اور یادگار بنانے کے لیے ان دنوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی غیر معمولی نشان ظاہر ہوا جیسے یہی عاشوراء کا دن ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو مصر سے نکالا اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کیا۔ چنانچہ یہ دن شریعت موسوی میں یادگار قرار پایا۔ اس یادگار کی یہ شکل مقرر نہیں کی گئی کہ اس میں مصر سے نکلنے کی کہانیاں اور قصے بیان کیے جائیں اور اس کو میلے ٹھیلے کا دن بنایا جائے بلکہ اس دن کاروزہ رکھنا طے کیا گیا۔۔۔۔۔ اسی طرح دیکھئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس روز اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بد لے میں دنبہ دے کر قربانی کرائی، اس عظیم الشان تاریخی دن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنادیا گیا اور تمام دنیا کے اہل ایمان کے لیے یہ طریقہ مقرر کر دیا گیا کہ وہ اس روز قربانی کر کے اس دن کی یاد تازہ کریں۔۔۔۔۔ اسی طرح جس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا اس پورے مہینے کو نزولِ قرآن کی یادگار بنادیا اور اسی غرض کے لیے رمضان کے روزے مقرر کیے گئے۔۔۔۔۔ معلوم ہوا کہ شریعت یادگاروں کی اہمیت کو عملاً تسلیم کرتی ہے لیکن اس کے لیے وہ معیار اور آداب بھی خود مقرر کرتی ہے اور اس کے یہ معیار اور آداب اس کی حقیقت روح کی نمائندگی کرتے ہیں۔

**حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہفتہ اور التوارکاروزہ اکثر رکھنے کی حکمت:**

(110) وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا يَوْمًا عِيدٍ لِلْمُسْتَرِكِينَ فَإِنَّا أُحِبُّ أَنْ أَخْلَفَهُمْ . رَوَاهُ أَحْمَد

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفلی روزوں میں اکثر ہفتے اور اتوار کاروزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ مشرکین کی عید کے دن ہیں (یعنی ان کے مقدس دن ہیں) اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف عمل کروں۔ (احمد)

یہاں مشرکین سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں ہفتے کا دن یہودیوں کے ہاں اور اتوار کا دن عیسایوں کے ہاں مذہبی تقدیس کا حامل سمجھا جاتا ہے اس بنا پر یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا اور عیسایوں (Practising christians) کے نزدیک اتوار کا دن روزہ رکھنا نیکی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان دونوں دنوں کا روزہ رکھ کر دونوں کے خلاف کرتا ہوں کیونکہ یہودی صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اتوار کا نہیں رکھتے اور عیسائی صرف اتوار کا روزہ رکھتے ہیں ہفتے کا نہیں رکھتے۔ اس طرح اہل کتاب کے ہاں ان دونوں دنوں کی جس وجہ سے اہمیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار بھی رکھا۔ لیکن دونوں کے طریقوں کو اپنایا بھی نہیں۔

**حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صیامِ رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کے روزے کی تاکید فرمایا کرتے تھے:**

(111) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سُمَرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَنْهَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهِدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهِدْنَا عِنْدَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یوم عاشوراء کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے اور ہمیں اس پر ابھارا کرتے تھے اور ہم سے دریافت کیا کرتے تھے کہ کس کس نے روزہ رکھا ہے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس کے بعد نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حجڑ دیا، نہ اس سے منع فرمایا اور نہ یہ پوچھا کہ کس کس نے یہ روزہ رکھا ہے۔ (مسلم)

یَحُثُّنَا (یعنی ہمیں ابھارتے تھے) کے الفاظ واضح کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کو فرض یا واجب قرار نہیں دیا تھا بلکہ بس وہ ایک نیکی کا کام ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھارتے تھے۔

يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ بھی آج کس کس نے روزہ رکھا ہے۔ یہ بھی گوایا ہمارے اور ترغیب دلانے کا ایک طریقہ تھا جس سے لوگوں کو اس کی اہمیت سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا تھا۔

پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ہمیں عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور نہ اس سے منع کیا اور نہ پھر کبھی کسی سے پوچھا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی وہ پہلی اہمیت ختم کر دی۔

**چار کام جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے تھے:**

(112) وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَثَ: أَنْتَ لَمْ يَكُنْ يَدْعُنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامُ عَاشُورَاءَ وَالْعُشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهِيرٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ . رَوَاهُ السَّنَائِيٌّ

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چار کام ایسے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے تھے:

۱۔ عاشوراء کا روزہ۔ ۲۔ ذی الحجه کے پہلے عشرے کے روزے۔ ۳۔ ہر مہینے کے تین روزے اور

۴۔ فجر کے فرضوں سے پہلے دور کعٹ سنت۔ (نسائی)

اگرچہ حدیث کے متن میں عَشْر (دس) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن اس سے ذی الحجه کے ابتدائی نو دن مراد ہیں کیونکہ دسوال دن تو عید الاضحی کا ہے۔

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے بیان سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فجر کی سننیں ترک نہیں کیں۔ حضور ان کا ہمیشہ التزام فرماتے تھے اور آپ نے ان کی بہت زیادہ تاکید بھی فرمائی ہے۔ اس لیے جو سننیں فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت انہی دو سننوں کی آئی ہے۔

نفلی روزوں کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معمولات اور ان کی اہمیت کا تفصیلی ذکر گزشتہ احادیث میں آچکا ہے۔

**حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے التزام سے رکھتے تھے:**

(113) وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبَيْضِ فِي حِضْرَةٍ وَلَا فِي سَفَرٍ. رَوَاهُ السَّنَائِيُّ

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے (یعنی تیر ہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ کے) روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر مقیم ہوں، خواہ سفر میں ہوں۔ (نسائی)

اس سے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادات کے متعلق جس صحابی کے علم میں جوبات آئی تھی وہ اس نے بیان کر دی۔ چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام بیض میں اکثر روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اس لیے انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ آپ یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسرے صحابے نے حضور کو کسی اور چیز کا التزام کرتے دیکھا تو انہوں نے اسی طرح سے بیان کیا۔ جس شخص نے دیکھا کہ حضور کثرت سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس نے اسے اس طرح بیان کیا کہ گویا آپ ہمیشہ یہ کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں۔ لیکن ان میں کوئی تضاد در حقیقت نہیں ہے۔

**روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے:**

(114) وَعَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَرَزْكَةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ . رَوَاهُ أَبْنَ مَاجَهٍ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور آدمی کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ (ابن ماجہ)

حقیقت میں تو تمام عبادتیں ایک لحاظ سے زکوٰۃ ہی کی تعریف میں آئی ہیں لیکن بطور اصطلاح صرف مال کی زکوٰۃ کو زکوٰۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ زکوٰۃ اصل میں یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا حق تسلیم کریں اور اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں۔ چنانچہ روزہ آدمی کے جسم کی زکوٰۃ ہے اور اس زکاۃ کی ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ آپ روزہ اس احساس کے ساتھ رکھیں کہ میرے رب نے مجھ پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں اور مجھے جنم جیسا عظیم الشان خادم عطا فرمایا ہے یہ روزہ میں اس کے شکرانے کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ اگر کسی شخص نے محض اپنی صحت درست کرنے کے لیے روزہ رکھ لیا تو وہ جسم کی زکاۃ نہیں ہے۔ وہ جسم کی زکاۃ اُس وقت

شمکر ہو گا جب کہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جسم میں اُس کا حق مان کر کھا جائے۔۔۔۔۔ اسی طرح آپ کے اوپت کی زکاۃ ہے جو وقت بھی آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کریں گے وہ لا محالہ آپ کے وقت کی زکاۃ ہو گی۔ اسی طرح آپ کی قابلیتوں کی زکاۃ ہے۔ جو کچھ قابلیتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اگر آپ ان کو خدا کا دین پھیلانے میں، لوگوں کو اس کے دین کا قائل کرنے میں، اور کفر والوں کا مقابلہ کرنے میں صرف کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کی دماغی اور علمی قابلیتوں کی زکاۃ ہو گی۔۔۔۔۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی آپ کو دی ہے اس پر اس کا حق ہے، اور جب آپ یہ حق ادا کرتے ہیں تو گویا اس چیز کی زکاۃ ادا کرتے ہیں۔

### پیر اور جمعرات کے نفلی روزوں کی فضیلت:

(115) وَعَنْ أَبِي بُنْيَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ. فَقَالَ: إِنَّ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا ذَا بَارِجِينَ يَقُولُ: دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ اکثر رکھتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پیر اور جمعرات کے دن وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ ہر مسلم کی مغفرت فرماتا ہے۔ بجز ان دو مسلمانوں کے جو ایک دوسرے کا مقاطعہ کیے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ (احمد، ابن ماجہ)

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ طریق تعلیم کی ایک شاندار مثال ہے۔ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فعل کی مصلحت بیان فرمائی اور دوسری طرف ایک عظیم الشان آخلاقی تعلیم دی۔

پہلی چیز جو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر پیر اور جمعرات کو ہر مسلم کی مغفرت فرماتا ہے تو اس میں لفظ مسلم کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ لفظ مسلم کو اس کے حقیقی معنی میں لیا جائے یعنی وہ آدمی جو واقعی اللہ تعالیٰ کا مطبع و فرمانبردار ہو اور اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں دے رکھی ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اسلام کا انکار کرنے کے بجائے اُسے قبول کر لیا ہے۔ اس پر بھی لفظ مسلم کا اطلاق ہو گا، قطع نظر اس سے کہ اس کی عملی زندگی میں کیا کچھ خامیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر یہاں مسلم پہلے معنوں میں لیا جائے تو اس کی مغفرت کے معنی یہ ہوں گے کہ مسلم ہونے کے باوجود انسانی کمزوریوں کی بنا پر اس سے جو لغزشیں اور خطایں ہوتی ہیں وہ اس کی نفلی عبادات کے صلے میں آپ سے آپ سے معاف کردی جاتی ہیں۔

اگر یہاں مسلم دوسرے معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ محض اسلام قبول کرنے اور اسلام کو قطعی طور پر رد کر کے کفر پر قائم رہنے میں بہر حال فرق ہے اور دونوں چیزوں کے الگ الگ نتائج ہیں۔ اگر ایک آدمی اسلام کو قطعی طور پر رد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن کو کتاب ہدایت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول تسلیم نہیں کرتا اور اپنے کفر پر (خواہ وہ عیسائیت ہو یا یہودیت یا کوئی اور نہ ہب) قائم رہتا ہے تو وہ لازماً باغی ہے۔ اس صورت میں اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں ہے اور اس کے بارے میں کسی عمل صالح کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی حکومت کے خلاف بغاوت کر دے تو وہ حکومت اس کے کسی فعل کو بھی

مطابق قانون نہیں مانے گی۔ چاہے وہ خود دوسروں کو تعزیرات پاکستان کے مطابق سزا عین دیتا رہا ہو اور اس نے دوسروں پر ”کر منل پرو سیجر کوڈ“ (Criminal Procedure Code) کے مطابق مقدمات چلائے ہوں، یا اسے ”یوں سروس کنڈکٹ رو لز“ کے تحت عدالت کا نجح مقرر کیا گیا ہو اور وہ پورے ملکی قانون پر عمل پیرا رہا ہو۔ جب وہ بغاوت کے جرم میں پکڑا جائے گا تو حکومت اسے پوری سزادے گی اور اسے کوئی گنجائش یا اجر اس بات کا نہیں دے گی کہ یہ تو کر منل پرو سیجر کوڈ کے مطابق یا تعزیرات پاکستان کے مطابق کام کرتا رہا ہے اور تمام قوانین کا پابند رہا ہے۔ ایسا ہی معاملہ خدا کے اُس باغی کا ہے جس نے اسلام کو رد کر دیا اور کفر اور شرک پر قائم رہا ہے۔ اس کے کسی عمل کے عمل صالح ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا سب کچھ کیا ہوا ضائع ہو جائے گا اور اسے اس کی بغاوت کی پوری پوری سزا بھی دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی اسلام کو برحق مان لیتا ہے اور اس کی پیروی کا اقرار کر لیتا ہے تو اس طرح وہ گویا خدا کی وفادار رعایا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ کوئی گناہ یا قصور کرتا ہے تو وہ مجرم شمار ہو گا باغی نہیں۔ وہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے اجر کا مستحق ہو گا اور اگر کوئی قصور کرتا ہے تو اس کی سزا کا مستوجب ہو گا۔ وہ اس دائرے سے نکل آیا ہے جس میں وہ خدا کا باغی تھا۔ اب اس صورت میں اس کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی اجر ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی بھر برائیوں میں مبتلا رہنے کے باوجود نیکی کا کوئی ایسا کام کر جائے جس سے اس کی بالکل معافی ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سخت گنہگار ہے لیکن ہے مومن اور مسلم۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ پیش آ جاتی ہے۔ اس حالت میں اس پر غیرتِ ایمانی غلبہ پاتی ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جا کر لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کا وہ ایک ہی فعل اس کے تمام گناہوں کا معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایک مسلم کے لیے مغفرت کی میسیوں شکلیں ہیں اور یہاں یہی فرمایا گیا ہے کہ ہر مسلم کی مغفرت ہوتی ہے۔

مغفرت کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہیں کلی مغفرت کے اور دوسرے معنی ہیں جزوی مغفرت کے۔ کلی مغفرت یہ ہے کہ سارے قصور معاف کر دیے جائیں اور جزوی مغفرت یہ ہے کہ اس کی ایک ایک نیکی ایک گناہ کا بدله ہوتی چلی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ برائیوں پر پکڑ ہی لیا جائے۔ آخرت میں حساب لگایا جائے گا کہ اُس آدمی نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی بدیاں اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ اس کی نیکیوں کے حساب سے اس کی بدیاں چھانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کے بعد بھی بدیاں باقی رہ جائیں گی تو اس صورت میں اسے سزا ملنے کا سوال پیدا ہو گا۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے اس کو سزادے بے بغیر بخش دے۔

### خدا کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت:

(116) وَعَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا أَبْيَاعَةً وَجْهُ اللَّهِ بَعْدَ اللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ كَبْغَدْ عَزَابٌ طَائِرٌ وَبُؤْ فِرْخٌ حَتَّى مَاتَ بِرْمَا . رَوَاهُ أَحْمَد . . . وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اللہ اسے جہنم سے اتنے فاصلے تک دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ کہ ایک کو اپنے پیدا ہونے کے بعد سے بوڑھا ہو کر مرنے کی عمر تک اڑ کر طے کرتا ہے۔ (احمد، بیہقی)

اس سے پہلے اس نوعیت کی مختلف احادیث گزر چکی ہیں جن میں سے ایک میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ آجر اس شخص کے لیے ہے جس نے فی سبیل اللہ روزہ رکھا۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جس نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھا۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ایک نفلی روزہ رکھ لے اور اس کے نتیجے میں جب وہ جہنم سے اتنے بڑے فاصلے پر بچنے جائے تو اس کے بعد وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ اب مجھے مزید عبادت کرنے اور مشقت اٹھانے کی کیا ضرور ہے۔۔۔ درحقیقت یہ بات ان لوگوں کے لیے فرمائی ہیں نہیں گئی جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے فرار کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں سے کہی گئی ہے جو ایک طرف تو پوری دلجمی اور انہاک کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کرنے والے تھے اور دوسری طرف انھیں مزید ایسے کاموں کی طلب رہتی تھی جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ خوشنودی حاصل کر سکیں۔

اس طرح کی احادیث کو دیکھ کر بعض لوگ ناک بھوس چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جنھوں نے لوگوں کو بگڑا ہے۔ حالانکہ انھیں معلوم نہیں کہ انہی حدیثوں نے درحقیقت اس معاشرے کو بنایا تھا۔۔۔ ان لوگوں کی تربیت اس انداز سے کی گئی تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت بے تاب رہتے تھے۔ ان لوگوں کو ایک ایک چیز بتائی گئی کہ یہ کام کرو گے تو اس پر اس اس آجر کے مستحق ہو گے۔ چنانچہ وہ ایک ایک کام کی طرف لپکتے جاتے تھے اور ہر وقت اس بات کے حریص رہتے تھے کہ نیکی کا کوئی کام ایسا نہ رہ جائے جسے وہ انجام نہ دے سکے ہوں۔

## بَابِ فِي الْأَفْطَارِ مِنَ التَّطَّوُعِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

### نفلی روزہ قبل از وقت افطار کرنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عمل:

(117) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتُ يَوْمٍ فَقَالَ: بَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَلَّا: لَا قَالَ: فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ . ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقَلَّا: بَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْدِي لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: أَرْبِينِي فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكُلُّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور آپ نے دریافت فرمایا: کیا تمہارے پاس (کھانے کو) کچھ ہے؟ ہم نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: اچھا تو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔۔۔ پھر کسی دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں کچھ حیس<sup>1</sup> ہدیۃ بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لاؤ مجھے دکھاؤ، میں نے تو صحیح روزہ رکھ لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے تناول فرمایا۔ (مسلم)

اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کھانا ہونے کی وجہ سے روزہ رکھ لیا۔ پھر ایک اور دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کر کے کہ شاید گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہو گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا۔ بعد میں گھر میں کسی کے ہاں سے ہدیہ کے طور پر حیس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ کھول لیا اور اسے تناول فرمایا۔ یہ دونوں واقعات نفلی روزے سے متعلق ہیں۔ آگے اس سلسلے کی کچھ مزید احادیث آتی ہیں۔

### نفلی روزے کی قضایا مسئلہ:

<sup>1</sup> کھجور، گھنی اور بچے ہوئے دودھ کو ملا کر ایک ملیدہ سماں بنا جاتا ہے، اسے حیس کہتے ہیں۔

(118) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِقُمْرٍ وَسَمِّنٍ فَقَالَ: أَعِدُّوا سَمَّنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَقُمْرَكُمْ فِي وَعَاءِهِ فَإِنِّي صَائمٌ . ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى عَيْرَ الْمُكْتُوبَةَ فَدَعَا لِأَمِ سُلَيْمٍ وَأَبِيلَ بَنِيهَا . رَوَاهُ البَحَارِيُّ

حضرت اُم سُلیم حضرت انس کی والدہ تھیں۔ یہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انہا محبت کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خدمت گزار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خاندان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ان کے گھروں نے دس سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا اور انھوں نے دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان دیرینہ مراسم اور تعلقات محبت کی بناء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایسے ہی ایک موقع کا ذکر بیہاں فرماتے ہیں۔

اس طرح آب و مختلف حدیثیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، کھانا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھالیا۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔۔۔ ان دونوں حدیثوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک حالت تو وہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کھانہ ہونے کی وجہ سے روزے کی نیت کر لیکن جب دیکھا کہ گھر میں کھانا آگیا ہے تو روزہ کھول لیا۔ روزے کی نیت اس لیے کہ جب گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے تو بجائے اس کے کو دیسے ہی فاقہ کیا جائے روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ملے۔۔۔ دوسری حالت میں یہ ہوا کہ اس روز پہلے سے نفلی روزہ رکھنے کا ارادہ تھا اس لیے کھانا سامنے آنے کے باوجود روزہ افطار نہیں کیا۔۔۔ ان دونوں حالتوں میں واضح فرق ہے۔ وہاں چونکہ روزہ اس وجہ سے رکھ لیا تھا کہ کھانا نہیں ہے اس لیے جب کھانا آگیا تو کھالیا، لیکن بیہاں چونکہ پہلے سے روزہ رکھنے کا ارادہ تھا اس لیے کھانا آبھی گیا لیکن نفلی روزہ ہونے کے باوجود افطار نہیں کیا۔

فقہاء کے درمیان نفلی روزے کی قضا کرنے یانہ کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام احمد اور امام شافعی رحمہما اللہ کا قول مختلف احادیث کے پیش نظر یہ ہے کہ اگر ایک شخص نفلی روزہ توڑے اور کھانا کھائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کی قضا ہے۔ اور امام مالک کا قول یہ ہے کہ اگر آدمی بلاعذر روزہ توڑے تو اس کی قضا ہے لیکن اگر کسی معقول وجہ سے روزہ کھول لے تو اس کی قضا نہیں ہے۔

### کھانے کی دعوت قبول کرنا مسنون ہے:

(119) وَعَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَغَامٍ وَبُؤْ صَائمٌ فَلْيَعْلُمْ: إِنِّي صَائمٌ " . وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصِلِّ وَإِنْ كَانَ مُفطِراً فِي طَعَمٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے سے ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔۔۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے وہ دعوت قبول کر لینی چاہیے پھر اگر وہ روزے سے ہو تو وہ نماز پڑھ لے اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھائے۔ (مسلم)

یہ جو فرمایا کہ فَلْيُصَلِّ، یعنی اگر وہ روزے سے ہوتا وہ نماز پڑھ لے، تو اس مقام پر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ دعوت کرنے والے کے حق میں دعا کرے۔ دوسرا یہ کہ جب لوگ کھانے کھانے لگیں تو یہ اس دوران میں نفل نماز پڑھے۔ یہ دونوں معنی عملًا اس طرح جمع ہو سکتے ہیں کہ آدمی نفل نماز بھی پڑھے اور دعوت دینے والے کے لیے دعا بھی کرے۔

## الفصل الثاني

### نفلی روزہ قبل از وقت افطار کیا جا سکتا ہے:

(120) عَنْ أَمْمَ بَنِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتحِ فَتَحَّ مَكَّةَ جَاءَ ثُقَاتٌ فَاجْسَدَتْ عَلَى يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْ بَنِيٍّ عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ يَانَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَنَأَوْلَشَ فَشَرَبَ مِنْهُ أَمْ بَنِيٍّ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا: أَكُنْتُ تَتَضَعِّنُ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَلَا يَصُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطْوُعًا . رَوَاهُ أَبُو ذَاؤْدَ وَالْتَّرمِذِيُّ وَاللَّاثَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ الْأَحْمَدَ وَالْتَّرمِذِيِّ تَحْوِهُ وَفِيهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ: الصَّائِمُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ ضَامِنٌ شَاءَ أَفْطَرَ.

حضرت امّہانی رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے روز (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کے بائیں جانب بیٹھ گئیں اور میں (یعنی امّہانی رضی اللہ عنہا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ بیٹھی تھیں۔ اتنے میں گھر کی ملازم اڑکی ایک برتن میں کچھ پینے کے لیے لائی اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی برتن امّہانی رضی اللہ عنہا کو دے دیا۔ انہوں نے اس میں سے پی لیا اور پھر عرض کیا: یا رسول اللہ، میں نے روزہ کھول لیا ہے درا نحالیکہ میں روزے سے تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اپنے کسی پچھلے روزے کی قضا کر رہی تھیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر یہ نفلی روزہ تھا تو اس (کے افطار کر لینے) میں تمہارے لیے کچھ مضاائقہ نہیں۔۔۔۔۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضرت امّہانی رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں تو روزے سے تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امیر (با شاہ) ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ لے (یعنی اس کی تکمیل کرے) اور اگرچا ہے تو افطار کر لے۔ (ابوداؤد، ترمذی، دارمی، احمد)

ایک مرد مومن یا عورت کے لیے اس سے بڑھ کر عزت اور برکت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برتن میں پانی پی کر اسے دے دیا ہو۔ چنانچہ حضرت امّہانی رضی اللہ عنہا نے اسی شوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا پانی پی لیا۔ لیکن اس کے بعد یہ فکر ہوئی کہ آیا اس طرح روزہ افطار کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو روزے سے تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی مضاائقہ نہیں۔

معلوم ہوا کہ نفلی روزے میں وہ پابندی نہیں ہے جو فرض روزے میں ہوتی ہے اگر کوئی شخص فرض روزہ جان بوجھ کر توڑے تو اس کے کفارے کے طور پر اسے ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو گا۔ لیکن اگر نفلی روزہ کھول لے تو کوئی مضاائقہ نہیں۔

”کوئی مضائقہ نہیں ہے“ کے الفاظ کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ نفلی روزہ کھول لینے پر کوئی کفارہ واجب نہیں آتا اور نہ اس کی کوئی سزا یا اس پر کوئی گرفت ہے اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قضا تو کرنا ہو گی لیکن روزہ کھول لینے کا کوئی گناہ نہیں۔ اس سلسلے میں فقهاء کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ ان احادیث کے معنی کو دیکھ کر ہوا ہے۔ اور اس اختلاف کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ ہر ایک نے کسی نہ کسی چیز سے دلیل لی ہے اور کوئی فتویٰ بے دلیل نہیں دیا ہے۔

### نفلی روزے کی قضایا مسئلہ:

(121) وَعَنِ الزُّبْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَحْدَهُ صَائِمَيْنِ فَعَرَضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَا فَأَكَلَنَا مِنْهُ فَقَالَ حَفْصَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا صَائِمَيْنِ فَعَرَضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَا فَأَكَلَنَا مِنْهُ قَالَ: اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانًا۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدُ امام زہری رحمہ اللہ عروہ بن زبیر سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ روزے سے تھیں۔ اس حالت میں ہمارے سامنے ایک ایسا کھانا پیش کیا گیا جو ہمیں بہت مرغوب تھا۔ چنانچہ ہم دونوں نے اس میں سے کھالیا۔۔۔ اس کے بعد حضرت حفصہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم دونوں روزے سے تھیں لیکن ہمارے سامنے ایک ایسا کھانا پیش کیا گیا جو ہمیں بہت مرغوب تھا اس لیے ہم نے اس میں سے کھالیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کی قضایا کرنے کے لیے اس کے بد لے میں کسی دوسرے دن کاروزہ رکھ لو۔ (ترمذی، ابو داؤد) پچھلی حدیث میں فرمایا گیا تھا کہ تم اپنے نفس کے مالک ہو، چاہے نفلی روزہ رکھو چاہے نہ رکھو۔ اگر روزہ ہونے کے باوجود کھول لو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اس کی قضایا کرو۔ اس سلسلے کی احادیث کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ”قضایا“ کے الفاظ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تصحیح قضایا کرنی چاہیے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے روزہ کھول لیا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہارے دل میں ملال ہے تو کسی دوسرے دن اس کی قضایا کرو، البتہ روزہ کھول لینے پر کوئی موافذہ نہیں ہے۔۔۔ خود یہ حدیث اس بارے میں واضح اور قطعی نہیں ہے کہ آیا قضایا کرنے کے الفاظ حکم کی حیثیت رکھتے ہیں یا ان کا مطلب محض یہ ہے کہ اگر آدمی چاہے تو وہ دوسرے دن کاروزہ رکھ کر اس کی تلافسی کر لے۔

فقہاء کے درمیان جو اختلاف ہوئے ہیں وہ عموماً ایسی احادیث اور آیات کے معانی متعین کرنے میں ہوئے ہیں اور یہ اختلافات بالکل فطری ہیں۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں کسی شخص کے پاس بھی ایسی کوئی قطعی دلیل نہیں ہوتی جس کی بنا پر وہ دوسرے کے قول کو غلط قرار دے سکے۔ البتہ ہر ایک کی دلیل ایسی ہوتی ہے جو اس کے نزدیک توزیدہ مرنج ہوتی ہے لیکن دوسروں کے نزدیک اس کا وہ وزن نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے موقع پر یہ کہنا درست نہیں ہوتا کہ فلاں کا قول یکسر غلط ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے لیے اس دعوے کے ساتھ اسے رد کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا کہ وہ حدیث یا قرآن کے بالکل خلاف ہے۔

### نفلی روزہ رکھنے والے کی فضیلت:

(122) وَعَنْ أَمِّ عَمَارَةَ بْنَ كَعْبٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَثُ لِطِعَامٍ فَقَالَ لَهَا: كُلِّيْ . فَقَالَتْ إِلَيْهِ صَائِمَةٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرُغُوا . رَوَاهُ أَبُو هُمَّادُ وَالْتِرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَالْدَارَمِيُّ

حضرت اُمّ عمَارہ بنت کعب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر روزہ دار آدمی کے پاس کھانا کھایا جائے (اور وہ اس میں شریک نہ ہو) تو فرشتے اس کے لیے اُس وقت تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ لوگ کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی نفلی روزہ رکھے ہوئے ہو اور یہ حق رکھتے ہوئے بھی کہ وہ روزہ کھول کر کھاپی سکتا ہے اپناروزہ پورا کرے۔ دوسرے لوگ اس کے سامنے کھاپی رہے ہوں یعنی وہ روزے سے رہے۔ اس کے اندر صبر اور ضبط نفس کی جو کیفیت پائی جاتی ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جو جذبہ کار فرمائے اس کی وجہ سے ملائکہ برابر اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔

## الفَصْلُ الْثَالِثُ

### نَفْلِي رَوْزَه رَكْحَنَے کَا اجْرٌ:

(123) عَنْ بَرِيْدَةَ قَالَ: دَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُنُوْتُ يَتَعَدَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغَدَاءُ بِبِلَالٍ . قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَأْكُلُ رِزْقَنَا وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ أَشْعُرْتَ يَا بِلَالَ أَنَّ الصَّائِمَ سُسِّيْحٌ عَظَامُهُ وَلَسْتَعْفِرْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أَكَلَ عِنْدَهُ؟ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اس وقت دن کا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ، آذ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں روزے سے ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم اپناروزن کھا رہے ہیں اور بلال کا بہترین رزق جنت میں ہے۔ اے بلال رضی اللہ عنہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تک لوگ روزہ دار کے پاس کھانا کھاتے رہتے ہیں اس کی ہڈیاں تتبع میں لگی ہوتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ (بیہقی)

یہ چیز کہ ایک آدمی کو کھانے کے لیے بلا یا جائے اور کھانا سامنے موجود ہونے کے باوجود وہ اپنا نفلی روزہ پورا کرے، اتنا بڑا اجر رکھتی ہے کہ اس شخص کے لیے کھانا جنت میں محفوظ کر دیا جاتا ہے اور جتنی دیر تک لوگ اس کے پاس بیٹھے کھاتے رہیں اتنی دیر تک اس کی ہڈیاں تتبع میں لگی ہوتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔

## بَابُ لَيْلَةِ الْقُدْرِ

### الفَصْلُ الْأَوَّلُ

### لَيْلَةُ الْقُدْرِ مِنْ رَمَضَانَ كَآخِرِ عَشْرِ رَأْتُوْنَ مِنْ هِهِ:

(124) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحْرُرُوا لَيْلَةَ الْقُدْرِ فِي الْوَيْلِرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنَ رَمَضَانَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری دس راتوں کی طاق تاریخوں (یعنی اکیس، تینیس، پچسیں، ستائیس، اور انیس تاریخوں) میں تلاش کرو۔ (بخاری)

لیلۃ القدر اس خاص رات کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی صفت ہے چونکہ قرآن مجید اس خاص رات میں نازل کیا گیا تھا اس لیے اس کو قدر کی رات کہا گیا۔

### قدر سے کیا مراد ہے؟

قدر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی یہ ہیں کہ وہ رات بہت ہی احترام کے قابل اور بڑی عظمت والی ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس کے علاوہ قدر کا لفظ قضا و قدر کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تَرَّلُ الْفَلَائِكَةَ وَالرُّوحُ فَيَهَا يَأْذِنُ رَبِّهِمْ مَنْ كُلِّ أَمْرٍ (ملائکہ اور جبریل اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر طرح کے احکام و فرائیں لے کر نازل ہوتے ہیں) چنانچہ اس کے معنی تقدیر بنانے کی رات کے بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے قدر کو ضيق اور تنگی کے معنوں میں لیا ہے اور وہ لیلۃ القدر کا مفہوم یہ قرار دیتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ نے تنگی کی ہے کہ اس کی صحیح تاریخ لوگوں کو بتائی جائے۔ لیکن یہ ایک دُور کا مفہوم ہے۔

لیلۃ القدر کے متعلق یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ رمضان کی کوئی سی رات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے وہ بس یہ ہے کہ وہ رات رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ اس لیے اسے انہی راتوں میں تلاش کرو۔

لیلۃ القدر کا قطعی طور پر تعین نہ کرنے میں یہ حکمت کار فرمان نظر آتی ہے کہ آدمی ہر طاق رات میں اس امید پر اللہ کے حضور میں کھڑا ہو کر عبادت کرے کہ شاید یہی لیلۃ القدر ہو۔۔۔۔۔ لیلۃ القدر اگر اس نے پائی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس چیز کا وہ طالب تھا وہ اسے مل گئی۔ اب اس کے بعد اس نے جو چند مزید راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں تو وہ اس کی نیکی میں اور اضافے کا باعث بنیں گی۔

### لیلۃ القدر کے بارے میں صحابہ کرام کا خواب:

(125) وَعَنْ أَبْنَى عَمْرَ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْوَا لَيْلَةَ الْقُدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَّلَيْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَّلَيْنَ كَمَا مُتَحَرِّرُهَا فَلَيُتَسْعَرُوا فِي السَّبْعِ الْأَوَّلَيْنَ - (متفق علیہ)

حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کو خواب میں دکھایا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری سات تاریخوں میں ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے خواب رمضان کے آخری سات دنوں کے بارے میں متفق ہو گئے ہیں۔ پس اب جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش کرے تو وہ رمضان کی آخری سات تاریخوں میں تلاش کرے۔ (متفق علیہ)

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو متعدد احادیث ایک دوسرے سے مختلف آئی ہیں ان کے اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی حدیث زمانی اعتبار سے پہلے کی ہو اور کوئی بعد کی۔ کیونکہ راویوں نے احادیث کی روایت کرتے وقت ان کا زمانہ بیان نہیں کیا ہے۔ اس حدیث میں بھی ایسا کوئی تعین نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کس زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اپر حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی روایت میں

حضور کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری دس تاریخوں میں تلاش کرو۔ یہاں بہت سے صحابہ کے ایک خواب کا ذکر کیا گیا ہے جس کے مطابق وہ رمضان کی آخری سات تاریخوں میں سے کوئی رات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ کئی صحابہ کو ایک ہی خواب نظر آیا ہے یہ فرمایا کہ آب لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری سات تاریخوں میں تلاش کرو۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت پہلے کی ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بعد کی ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب) ایسی احادیث کو یہ کہہ کر دنہیں کیا جاسکتا کہ یہ باہم متفاہد ہیں بلکہ در حقیقت ان میں اختلاف ترتیب زمانی کی تقدیم و تاخیر کی وجہ سے ہوا ہے اور اس نوع کا اختلاف ان کو متفاہد یا غلط قرار دیے جانے کی دلیل نہیں بن سکتا۔

### لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاقت راتوں میں تلاش کرنے کی ہدایت:

(126) وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّمِسُونَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةُ الْقُدرِ: فِي تَاسِعَةٍ تَبَقَّى فِي سَابِعَةٍ تَبَقَّى فِي خَامِسَةٍ تَبَقَّى. رَوَاهُ البُخَارِيُّ

حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری دس تاریخوں میں، یعنی ایسیں یا نیتیں کو، تنسیں یا تائیں کو یا پچھیں کو۔ (بخاری)

حدیث کے متن میں فِي تَاسِعَةٍ تَبَقَّى کے اور ایسے ہی دوسرے الفاظ آئے ہیں، یہ دراصل عربی زبان میں اعداد بیان کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اگر ان کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو مفہوم خطب ہو جائے گا۔ عربوں میں چونکہ لکھنے پڑھنے کاررواج نہیں تھا اس لیے وہ اپنا حساب کتاب عام طور پر انگلیوں سے کیا کرتے تھے اور ان کے ہاں اعداد بیان کرنے کے بعض دوسرے طریقے بھی رانج تھے۔ انہی میں سے ایک خاص طریقہ یہ بھی تھا جس کے مطابق یہاں گنتی کر کے تاریخوں کی وضاحت کی گئی ہے۔

حدیث کے متن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا زمانہ بھی وہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آخری عشرے کی طاقت راتوں کا ذکر کر کے چھوڑ دیا گیا ہے لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں تاریخوں کی صراحت بھی موجود ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی ان راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس طرح یہ حدیثیں باہم مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ دراصل ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔

### لیلۃ القدر کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا رمضان اعتکاف میں گزرنے کا واقعہ:

(127) وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اغْتَفَلَ الْعَشْرَ الْأُوْسَطَ فِي قُبْحَةِ شُرَكَةٍ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ الْتِي بِذِهِ الْلَّيْلَةِ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأُوْسَطَ ثُمَّ أَتَيْتُ فَقِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ أَغْتَكَفْ مَعِي فَلَيَغْتَكِفْ الْعَشْرَ الْأُوْسَطِ فَقَدْ أَرِيَتُ بِذِهِ الْلَّيْلَةِ ثُمَّ أُنْسِيَتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَّمِسُونَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَالْتَّمِسُونَ فِي كُلِّ وَثَرِّ . قَالَ: فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ الْلَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَثَ عَيْنَائِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَبَتِهِ أَنْجَى المَاءُ وَالصَّلَبُ وَالْمَاءُ مِنْ صَبِيحَتِهِ إِلَى حَدَى وَعَشْرِينَ مُتَّقِقَ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنَى وَالْلَّفْظُ لِمُسْلِمٍ إِلَى قَوْلِهِ: " فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ ". وَالْبَاقِي لِبُخَارِيٍّ (مُتَّقِقٌ عَلَيْهِ) وَفِي رَوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَّسٍ قَالَ: لَيْلَةُ

ثَلَاثَ وَعَشْرِينَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے دن اعتکاف کیا۔ پھر (ایک مرتبہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکی طرز کے خیمے کے اندر رمضان کے درمیانی دس دن اعتکاف کیا۔ اعتکاف ختم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکلا اور فرمایا: میں نے اس رات کی تلاش میں پہلے دس دن کا اعتکاف کیا پھر میں نے تیجے کے دس دن کا اعتکاف کیا۔ تب میرے پاس آنے والا آیا اور اُس نے مجھ سے کہا کہ لیلیۃ القدر رمضان کی آخری دس راتوں میں ہے۔ پس جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے انھیں چاہیے کہ وہ اب آخری دس دن بھی اعتکاف کریں۔۔۔ مجھے یہ رات (لیلیۃ القدر) دکھائی گئی تھی مگر پھر بھلادی گئی اور میں نے یہ دیکھا کہ میں اس رات کی صبح کو پانی اور مٹی میں (برسات کی وجہ سے) نماز پڑھ رہا ہوں پس تم لوگ اسے رمضان کے آخری دس دنوں کی طلاق تاریخوں میں تلاش کرو۔۔۔ اس کے بعد حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات کو (جس کا وہ ذکر رہے ہیں) بارش ہوئی اور مسجد نبوی ایک ایسے چبوترے پر تھے جس پر کھجوروں کے پتوں کا چھپر تھا (اور نیچے مسجد میں کوئی فرش نہیں تھا) بارش کی وجہ سے مسجد رات کو پکی اور میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایکسویں تاریخ کی صبح کو آپ کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی کا نشاں تھا۔۔۔ امام بخاری اور امام مسلم مفہوم کے لحاظ سے اس حدیث پر متفق ہیں۔ اور حضرت عبد اللہ بن اُبی روایت میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ یہ رات تیسیسویں تھی۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

رمضان کے مختلف حصوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف بیٹھنے کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیبیہ القدر کو تلاش کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے دس دن اعتکاف کیا۔ پھر فتح کے دنوں میں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا گیا کہ لیبیہ القدر رمضان کے آخری دس دنوں میں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن صحابہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ یہ فرمایا کہ اب تم بھی آخری دس دنوں میں اعتکاف کرو۔ حدیث کے متن میں اُنْسِینَتُهَا کے الفاظ آئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ”ورات مجھے بھلادی گئی“ یہ نہیں فرمایا کہ میں بھول گیا۔ اس جگہ ایک نازک نکتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز بطورِ ہدایت نازل ہو یا کسی چیز کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہو اور وہ اسے بھول جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نعوذ باللہ رسالت محفوظ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایسا ہونا بعید از عقل و امکان ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلادیا جائے تو اسے اختیار ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے جس بات کو چاہے محو کر دے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر کام کے کرنے کا اختیار رکھتا ہے اسی طرح وہ اپنے کیے ہوئے کسی کام کو محو کر دینے اور منسون کر دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم اپنے نبی سے چھپایا بھی نہیں لیکن اس کو ظاہر کرنے کے بعد اس کے ذہن سے اس کو محو بھی کر دیتا کہ جس چیز کی خبر اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ لوگوں تک نہ پہنچے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اُنْسِینَتُهَا ورات مجھے بھلادی گئی۔<sup>1</sup>

<sup>1</sup> ایک اور حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مولانا محترم نے اس بات کی وضاحت یوں فرمائی: یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں نسیان لاحق ہو جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔ سُتْرِهِ کَفَلًا شَفَعِيَ لَا مَا شَاءَ اللَّهُ (الا علی ۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا گیا کہ ہم تم کو بذریعہ و حی جو کچھ پڑھو سوار ہے میں تم اسے بھولو گے نہیں۔ بھروس کے کچھ اللہ خود چاہے۔۔۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ما شَفَعَ مِنْ أَيْهَا وَمَا تَشَفَعَ بِهَا أَوْ مَنْ شَفَعَ لَهَا تَبَّأْتَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَفَاعَةٍ فَقَبِّلَ (النَّجْدَة ۱۰۶) یعنی بھروس پر جس ایست کو

اب یہ سوال کہ راوی حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے اخذ کردہ اس نتیجے کی حقیقت کیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی اکیسویں رات ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ مجھے خواب میں جو چیز دکھائی گئی ہے وہ یہ تھی کہ وہ کوئی بارش والی رات ہے اور صحیح کوئی نہ کچھ میں سجدہ کیا ہے۔<sup>1</sup> اس لیے جب لوگوں نے دیکھا کہ ایکس تاریخ کو بارش ہوئی ہے اور صحیح کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پانی اور مٹی کا نشاں تھا تو لوگوں نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے مطابق یہی رات لیلۃ القدر ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نہیں فرمایا کہ یہی اکیسویں رات لیلۃ القدر ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے خود یہ قیاس کیا کہ یہی رات لیلۃ القدر ہو گی۔ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور رات دکھائی گئی ہو کیونکہ عبد اللہ بن اُبی قیس کیا کہ یہی رات لیلۃ القدر ہو گی۔ چنانچہ اس طرح بھی ۲۱ تاریخ کا قطعی تعین نہیں ہوا۔۔۔۔۔ اس طرح دراصل حکمتِ الہی کا یہ مقصود کہ لوگوں کو ٹھیک ٹھیک اس رات کی تاریخ کا علم نہ ہو روایات کے اختلاف نے پورا کر دیا۔ نہ روایات متفق ہو سکیں اور نہ خود رسول اللہ ہی نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہی وہ رات ہے جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔

### رمضان کی ستائیسویں شب کے لیلۃ القدر ہونے کے متعلق ایک روایت:

(128) وَعَنْ زَرْ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ أَبْنَ مَسْعُودٍ يُصْبِبُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ رَجُمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَكَلَّ الْمَأْسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعُشْرِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ حَلَّ لَا يَسْتَشْتِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقُلْتُ: يَا أَبَيْ شَاءَ إِنَّكُمْ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُتَنَبِّرِ؟ قَالَ: بِالْعَلَمَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا شَطْلُهُ يَوْمَئِذٍ لَا شَعَاعَ لَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت زر بن حبیش (جو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد تھے) بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بھائی حضرت ابن مسعود تو کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر (راتوں کو) قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پالے گا۔ (آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی انہوں نے تو رمضان تک کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ کجا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کا ذکر کرتے) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان کی مراد دراصل یہ تھی کہ لوگ ایک خاص تاریخ یا خاص زمانے پر بھروسہ نہ کر لیں (اور سال بھر کی راتوں کی عبادت سے غافل نہ ہو جائیں) ورنہ انھیں معلوم تو تھا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور انھیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ رمضان کی آخری دس تاریخوں میں ہے، اور یہ بھی کہ وہ رمضان کی ستائیسویں رات ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب نے بغیر استثنائی کیے ہوئے حلفاء یہ کہا کہ وہ رمضان کی ستائیسویں تاریخ ہے پس میں نے پوچھا کہ اے ابو منذر، (حضرت ابی بن کعب کی کنیت) آپ یہ بات کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ایک علامت یا نشانی کی بنا پر کہہ

منسوج کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم دیکھیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔۔۔۔۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لیلۃ القدر کا علم دیا لیکن پھر بھلا دیا اور وہ اس بات کا پورا اختیار رکھتا ہے۔

<sup>1</sup> اس زمانے میں مسجد نبوی کا فرش پختہ نہیں تھا بلکہ خالی زمین پر کنکریاں ڈال دی گئی تھیں اور بارش سے کچھ ہو جاتی تھی۔

رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی اور وہ نشانی یہ ہے کہ اس روز جو سورج نکلے گا اس میں شعاع نہیں ہوگی۔ (مسلم)

”شعاع نہیں ہوگی“ سے مراد یہ ہے کہ شعاع میں تیزی نہیں ہوگی۔ ایسا اس بنا پر بھی ہو سکتا ہے کہ بادل ہونے کی وجہ سے سورج کی شعاع میں بہت بلکی اور دھیمی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس روزو یسے ہی شعاعوں میں تیزی اور چک کم ہو۔۔۔۔۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس علامت سے قطعی طور پر لیلۃ القدر کا تعین کیا جاسکتا ہے؟

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اول تو اپنے اجتہاد سے یہ رائے قائم کی کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بتائی ہے اور فلاں تاریخ کو (جو ستائیں سویں تھی) میں نے یہ علامت دیکھی ہے اس لیے ضرور یہ ستائیں سویں تاریخ ہی لیلۃ القدر کی تاریخ ہو گی، حالانکہ کسی اور تاریخ کو بھی سورج نکلنے کی یہ کیفیت ہو سکتی تھی۔ دوسرے یہ کہ خود لا شعاع لہا کے الفاظ بھی اس بات کا قطعی طور پر تعین نہیں کرتے کہ سورج کے طلوع ہونے کی کس کیفیت کا نام لا شعاع لہا ہے۔ اس بنا پر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ستائیں سویں تاریخ کا تعین کر دیا جائے یا کسی اور تاریخ کو کھڑے ہو کر ایک آدمی یہ دیکھے کہ آج سورج کی شعاع کیسی پڑھی ہے اور وہ اپنی جگہ یہ خیال کر کے کہ یہ لا شعاع لہا کی کیفیت ہے یہ طے کر دے کہ آج کی تاریخ وہ خاص تاریخ ہے۔۔۔۔۔ یہاں بھی دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت کس طرح پوری ہو رہی ہے کہ لوگوں کو یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔

### عشرہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام عبادات:

(129) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعُشْرِ الْأَوَّلِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي عَيْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں (اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں) جس قدر سخت محنت کرتے تھے اتنی اور کسی زمانے میں نہیں کرتے تھے۔ (مسلم)

### رمضان کے عشرہ آخر میں حضور کا اہتمام عبادات:

(130) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعُشْرَ شَدَّ مِئَرَةً وَأَحْيَا لِيْلَهُ وَأَقْطَطَ أَبْلَهَ۔ (مُتَّقِّعٌ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کی آخری دس تاریخیں آتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ رات رات بھر جا گتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ (تفقیع علیہ)

ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بندگی بجالانے میں ہمیشہ انتہائی محنت کرتے تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیان کے مطابق رمضان کے آخری دس دنوں میں آپ کی محنت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔

## الفصل الثاني

لیلۃ القدر کی دعا:

(131) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَئِنِّي لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: " قُولِي: اللَّهُمَّ إِنِّي عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي ". رَوَاهُ أَخْمَدُ وَابْنُ مَاجِهِ وَالْتَّرمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، تو مجھے اس میں کیا کہنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوں کہو کہ اے میرے خدا، تو بِرَاعْمَاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، المذا مجھے معاف فرمادے۔ (احمد، ابن ماجہ، ترمذی)

### لیلۃ القدر کو رمضان کے عشرہ آخر کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ہدایت:

(132) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: التَّسْوِيْبَا يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تِسْعَ بَقِيَّةِ أَوْ فِي سِبْعَ بَقِيَّةِ أَوْ فِي خَمْسَ بَقِيَّةٍ أَوْ ثَلَاثَ أَوْ آخِرَ لَيْلَةً . رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ

حضرت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنائے: لیلۃ القدر کو تلاش کرو (رمضان کی) ۲۱ یا ۲۳ یا ۲۵ یا ۲۷ یا ۲۹ تاریخ کی رات کو۔ (ترمذی)

اس سے پہلے بھی یہ بات بہ تکرار گزرنچکی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، طاق راتوں میں ہے اور آخری عشرے کی طاق راتیں یہی ہیں یعنی اکیسوں، تیسیسوں، پچیسوں، ستائیسوں اور اتسیسوں۔

### لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے:

(133) وَعَنْ أَبْنَى عَمْرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: إِنِّي فِي كُلِّ رَمَضَانَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: رَوَاهُ سُفْيَانٌ وَشَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْفُوا عَلَى أَبْنَ عَمْرَ

حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رمضان میں ہوتی ہے۔ (ابوداؤد)

جس رات میں قرآن نازل کیا گیا تھا اور جس کو قرآن مجید میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے چونکہ وہ رمضان کی ایک رات تھی اس لیے لازماً ہر رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر ہے لیکن کوئی رات ہے اس کا تعین نہیں ہو سکتا، بجز اس کے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔

### حضرت عبد اللہ بن انس کو ہر ماہ کی تیسیسوں شب مسجد نبوی میں گزارنے کی نصیحت:

(134) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لِي بَادِيَةً أَكُونُ فِيهَا وَأَنَا أَصْلَى فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ فَمَرْفِي بِلَيْلَةِ أَنْزَلْنَا إِلَيْنَا بَدَا الْمَسْجِدُ فَقَالَ: إِنَّلِي لَيْلَةَ ثَلَاثَ وَعَشْرِينَ . قِيلَ لِابْنِي: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصْلِي الصُّبْحَ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّةً عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحَقَ بِيَادِيَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت عبد اللہ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرص کیا: یا رسول اللہ، میرا گھر جگل میں ہے، وہیں میں رہتا ہوں اور وہیں اللہ کے فضل سے نماز پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک رات بتا دیجیے جس میں اس مبارک مسجد (مسجد نبوی) میں حاضر ہو اکروں (اور رات یہیں عبادت میں بسر کیا کروں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسیسوں رات کو آ جایا کرو۔۔۔۔۔ بعد کے راوی کا قول ہے کہ حضرت عبد اللہ بن انس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حمزہ بن عبد اللہ سے

پوچھا گیا کہ آپ کے والد (اس رات میں جب مسجد نبوی میں جائی اکرتے تھے تو) کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ (بانیسویں تاریخ کو) نمازِ عصر کے وقت مسجد نبوی میں جاتے تھے تو صبح کی نماز پڑھنے تک مسجد مبارک سے نہیں نکلتے تھے، سو اس کے کوئی خاص حاجت پیش آجائے۔ پھر جب صبح کی نماز پڑھتے تو مسجد کے باہر ان کی سوراہ موجود ہوتی اور وہ اس پر بیٹھ کر جنگل واپس آ جاتے۔ (ابوداؤ) اس حدیث میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن اُبیس کا تنسیسویں رات کو مسجد نبوی میں جانار رمضان ہی میں ہوتا تھا یا غیر رمضان میں بھی، کیونکہ رمضان کا لفظ اس حدیث میں نہیں آیا ہے۔ اس میں یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ حضرت عبد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر ہی کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ میں لیلۃ القدر آپ کے پاس مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اس حدیث سے یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی کہ تنسیس تاریخ لیلۃ القدر کی تاریخ ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جس راوی سے یہ حدیث مردی ہے انہوں نے حضرت عبد اللہ بن اُبیس سے اتنی تفصیلات معلوم نہیں کیں اور نہ ان کے صاحبزادے سے پوچھا کہ آیا انہوں نے لیلۃ القدر کی خاطر یہ بات پوچھی تھی، اور یہ کہ انہوں نے رمضان کے مہینے کی کوئی تاریخ پوچھی تھی، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہر مہینے تنسیس تاریخ کو آکے مسجد نبوی میں رہا کرو۔ اس لیے یہ حدیث اس بارے میں صریح نہیں ہے کہ آپ نے یہ لیلۃ القدر کی تاریخ بتائی تھی۔ اگر اس کی وضاحت ہوتی تو اس بات کا تعین ہو جاتا کہ تنسیس تاریخ کی رات لیلۃ القدر ہے۔

### الفصل الثالث

**حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا:**

(135) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّابِطِ قَالَ: حَرَجَتِ الْأَنْوَافُ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلِيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: حَرَجَتِ  
الْأَنْوَافُ بِلِيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى فَلَانُ وَفُلَانُ فَرَفَعَتْ وَعْسَى أَنْ يَكُونَ حَيْرًا لَكُمْ فَالْمُؤْمِنُوْنَ فِي الثَّالِثَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ . رَوَاهُ البَخَارِي  
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے (یا اپنے خانہ مبارک سے) نکلے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دیں۔ اتنے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر آپ نے ہم سے فرمایا کہ میں تو تمھیں لیلۃ القدر کی خبر دینے نکلا تھا مگر فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑ پڑے اور اس دوران میں وہ اٹھا لی گئی (یعنی اُس رات کا علم مجھ سے رفع کر لیا گیا) شاید تمہاری بھلائی اسی میں تھی۔ لہذا اب تم اسے اکیسویں یا تنسیسویں یا پچھیسویں رات کو تلاش کرو۔ (بخاری)

اب تک جتنی احادیث گزری ہیں ان سب پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی خاص حکمت اور مصلحت ہے کہ اُس نے لیلۃ القدر حتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی اور آپ کو اس بات پر مامور نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ جو بات بتانے کی اجازت دی گئی وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے اور تم طاق راتوں میں اُسے تلاش کرو۔ اس حدیث میں طاق راتوں میں سے بھی تین راتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ۲۱، ۲۳، ۲۵ اور بعض روایات میں اکیسوں سے اُنیس تک کی طاق راتیں ہیں اور بعض روایات میں آخری سات دنوں کی راتیں ہیں۔

احادیث کی روایت کرتے وقت پوچکہ یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کونسی حدیث کس تاریخ کی ہے اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ کونسی حدیث ابتدائی دور کی ہے اور کونسی بعد کے دور کی۔ علمائے امت میں جوبات معروف ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔

### اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں پر فخر کرتا ہے:

(136) وَعَنْ أَنَّسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كُنْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُصْلُونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِيْمٍ يَعْنِي يَوْمَ فِطْرِيْمٍ بَاهِيْمٍ يَوْمَ مَلَائِكَةٍ قَالَ: يَا مَلَائِكَةَ مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفِي عَمَلٍ؟ قَالُوا: رَتَّبَاهُ جَزَاءً أَنْ يُوَفَّ أَجْرُهُ . قَالَ: مَلَائِكَةٍ عَيْدِيْمٍ وَأَمَائِيْمٍ قَصَّوْهُ فَرِيْضَتِيْمٍ عَلَيْهِمْ حَرَجُوا يَعْجُونَ إِلَى الدُّعَاءِ وَعَرِيقَ وَحَلَالِيْمٍ وَكَرِيمِيْمٍ وَغَلُوْقِيْمٍ وَازْفَنَاعَ مَكَانِيْمٍ لِأَجْيِنِيْمٍ . فَيَقُولُ: ارْجُوا فَقْدَ عَفَّتْ لَكُمْ وَبَدَأْتُ مِنْتَيَا تُكَمِّلُ حَسَنَاتِيْمٍ . قَالَ: فَيَرِجُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ . رَوَاهُ الْبَيْهِقِيُّ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام ملائکہ کے ایک جھرمٹ میں اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا اللہ عز وجل کا ذکر کر رہا ہو (یعنی جاگ رہا ہوا اور عبادت کر رہا ہو) پھر جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو! اس اجیر (مزدور) کی جزا کیا ہے جس نے اپنے ذمے کا کام پورا کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہاے ہمارے پروردگار اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے پوری پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ! میرے ان بندوں اور بندیوں نے اپنا وہ فرض ادا کر دیا جو میں نے ان پر عالمہ کیا تھا۔ پھر اب یہ گھروں سے (عید کی نماز ادا کرنے اور) مجھ سے گڑ کر مانگنے کے لیے نکلے ہیں اور قسم ہے میری عزت اور میرے جلال کی، اور میرے کرم اور میری بلند مرتبگی کی اور میری بلند مقامی کی کہ میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے: جاؤ میں نے تمھیں معاف کر دیا اور تمہاری برا یوں کو بھلا یوں سے بدل دیا۔۔۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس حالت میں پلٹتے ہیں کہ انھیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ (بیتفہ)

اللہ تعالیٰ سال کے سال اپنے مومن بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے رمضان میں روزے رکھے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں کو عبادت کرتے رہے۔ پھر عید کے روز نماز کے لیے نکلے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اس کے نتیجے میں وہ اس کے ہاں سے مغفرت اور مہر بانیاں حاصل کر کے پلٹے۔۔۔۔۔

## بَابُ الْإِعْتِكَافِ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

اعتكاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت:

(137) وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعُشْرَ الْأَوَّلَ خَلَقَهُ تَوْفَاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ - (مُتَّقِّدٌ عَلَيْهِ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات بخشی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ (متفق علیہ)

اعتکاف کہتے ہیں اپنے آپ کو روکے رکھنے کسی چیز پر قائم رہنے اور اس سے وابستہ رہنے کو۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ آدمی ایک خاص صورت سے مسجد میں ٹھہر ارہے۔ گویا مسجد میں قیام کرنے اور وہاں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام اعتکاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں مسجد میں قیام فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول عمر بھر رہا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول ہے جو مدینہ طیبہ میں رہا کیونکہ رمضان کے روزوں کا حکم مدینہ طیبہ میں آیا تھا۔ دوسرے یہ کہ مکہ میں اس وقت تک سرے سے کوئی مسجد ہی نہیں تھی اور مسجد حرام (خانہ کعبہ) میں اعتکاف کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اس لیے اس سے مراد یہی ہے کہ قیام مدینہ طیبہ میں آخر وقت تک حضور کا یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔

ازواج مطہرات کا اعتکاف مسجد نبوی میں نہیں بلکہ اپنے چوروں ہی میں ہوتا تھا۔ تمام ازواج مطہرات کے جھرے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ تھے اور ہر ایک کادر واژہ مسجد کے اندر رکھتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے جس کے ہاں بھی قیام رکھتے تھے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لاتے تھے چونکہ یہ جھرے مسجد سے متصل تھے اس لیے ازواج مطہرات کو مسجد کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے بھی عورتوں کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا، بلکہ گھروں ہی میں ہوتا ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات بھی رمضان کے آخری عشرے میں اپنے چوروں میں اعتکاف کرتی رہیں۔

### رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا فیاضی اور جبریل کے ساتھ تھورہ قرآن:

(138) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ جِبْرِيلُ يُلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ يَغْرُضُ عَلَيْهِ الْثَّبِيْرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقَيْهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدُ إِلَيْهِ الْخَيْرِ مِنَ الرَّبِيعِ الْمُرْسَلَةِ۔ (متفق علیہ)

حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے معاملے میں (معمولًاً) تمام انسانوں سے زیادہ فیاض تھے اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بے انتہا فیاض ہوتے تھے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کے زمانے میں ہر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور حضور انھیں قرآن مجید سناتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے معاملے میں چلتی ہوئی ہواں سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے (وہ ہوا جو چلنے کے بعد کہیں رکتی نہیں اور ہر چیز پر سے گزرتی ہے اور ہر جگہ پہنچتی ہے) (متفق علیہ)

یوں تو قرآن مجید جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نقش ہو جاتا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھولتے نہیں تھے لیکن رمضان کے مہینے میں (کہ جس میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تھا) جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں سناتے تھے۔۔۔۔۔۔ پھر جس طرح ہوا ایک دفعہ چل پڑنے کے بعد ہر چیز پر سے گزرتی اور ہر جگہ پہنچتی ہے اس طرح ان دنوں میں رسول

الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر اور فیاضی معمول سے بہت زیادہ عام اور وافر ہو جاتی تھی۔ گویا یہ اس سرت کی وجہ سے ہوتا تھا جو ہرات جبریل علیہ السلام سے ملنے اور انھیں قرآن سنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی تھی۔

**جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے:**

(139) وَعَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يُعرضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَّرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي فُيضَ وَكَانَ يَغْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْشَكَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي فُيضَ . رَوَاهُ البخاري

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید پیش کیا جاتا تھا مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا اس میں آپ کو دو مرتبہ قرآن مجید سنایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دس دن اعتکاف کیا کرتے تھے مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اُس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن اعتکاف فرمایا۔ (بخاری)

گزشتہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے۔ اس حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل دونوں طرح ہوتا تھا۔ یعنی ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے البتہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ کو دو مرتبہ قرآن مجید سنایا گیا یعنی دو مرتبہ قرآن مجید آپ نے سنایا اور دو مرتبہ جبریل علیہ السلام نے سنایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنے کا عام معمول دس دن کا تھا لیکن حیاتِ مبارکہ کے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن اعتکاف فرمایا۔

**حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران اعتکاف میں ناگزیر ضرورت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے:**

(140) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أَنْذَى إِلَى رَأْسِهِ وَبُوْ في الْمَسْجِدِ فَأُرْجِلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ "۔ (متفق علیہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف (میرے جمرے میں) بڑھادیا کرتے تھے اور میں آپ کے بال درست کر دیا کرتی تھی۔۔۔۔۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم (اعتکاف کی حالت میں) گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر کسی خاص انسانی حاجت کے لیے۔ (متفق علیہ)

حاجۃ الانسان سے مراد وہ ناگزیر حاجت ہے جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ مثلاً پیشاب پاخانہ وغیرہ کیونکہ مسجد میں رفع حاجت نہیں کی جاسکتی۔

باقی رہی یہ بات کہ آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی طرف بڑھادیتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال درست کر دیتی تھیں تو اس کی صورت یہ تھی (جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے) کہ ازویج مطہرات کے حجروں کا ایک ایک دروازہ مسجد

نبوی میں کھلتا تھا اس لیے مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کے جگہ کی طرف بڑھادیتے تھے اور وہ تیل وغیرہ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال درست کر دیتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ اگر آدمی صرف مسجد کے دروازے سے اپنا سر باہر نکال لے تو وہ اس سے مسجد سے باہر نہیں نکلتا۔ مسجد سے باہر وہ اس وقت نکلے گا جب کہ وہ قدم باہر نکالے گا لیکن قدم باہر نہ نکالنے کی صورت میں اس کے جنم کا بڑا حصہ مسجد کے اندر رہے گا اس لیے محض سر باہر نکال لینے سے وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسجد سے صرف سر باہر نکلنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر آپ مسجد سے قدم باہر نکالیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔۔۔۔۔ مسجد سے باہر نکلنے کے لیے اجازت صرف اسی صورت میں ہے جب کہ کوئی ناگزیر حاجت در پیش ہو۔ مثلاً ایک آدمی کا کھانا لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے، چنانچہ وہ محض اپنا کھانا لینے کے لیے مسجد سے باہر جاسکتا ہے۔ خواہ گھر جائے یا کسی دکان پر۔ اسی طرح وہ پیشاب پا خانے کے لیے مسجد سے باہر جاسکتا ہے۔ البتہ ناگزیر حاجات کے سوا کسی حالت میں اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔

### جاہلیت میں مانی ہوئی کسی نیک کام کی نذر پوری کرنی چاہیے:

(141) وَعَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُثُثْ نَذْرُثُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكَفَ لِيَنَّةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ۔ (متقدّمٌ عَلَيْهِ)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ نذر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام (بیت اللہ) میں اعتکاف کروں گا (کیا مجھے یہ اپنی نذر پوری کرنی چاہیے؟) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم اپنی نذر پوری کرو۔ (متقدم علیہ)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان نے جاہلیت میں بھی کسی نیک کام کی نذر مانی ہو تو اسے اپنی نذر پوری کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی غلط اور بے جا کام کی یا کسی گناہ کی نذر مانی ہو تو اسے پورا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نیک کام کے لیے جاہلیت کے زمانے میں مانی ہوئی نذر کے متعلق اس امر میں اختلاف ہے کہ اس کا پورا کرنا لازم ہے یا نہیں۔ بعض فقہاء کے نزدیک اسے پورا کرنا لازم ہے اور بعض کے نزدیک لازم نہیں ہے، البتہ اس کی اجازت ضرور ہے۔ خود فاؤفِ بِنَذْرِكَ کے بھی دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ تم لازماً یہ نذر پوری کرو۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہاں تم نذر پوری کر سکتے ہو مگر ایسا کرنا ضروری نہیں۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اعتکاف کا طریقہ معروف تھا اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ مشرکین اپنے بتوں کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے اور اہل اللہ کے لیے عبادت گاہوں میں اعتکاف کرتے تھے۔ بعض اوقات مشرکین بھی مسجد حرام میں اللہ کے لیے اعتکاف کرنے کی نذر مانتے تھے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نذر اللہ کی خاطر تھی ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انھیں اس کے پورا کرنے کا حکم (یا اجازت) نہ دیتے۔

### حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے تھے:

(142) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا。 فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبَلُ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ。 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ عَنْ أَبِي بَحْرٍ

حضرت انس رضی اللہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے مگر ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ جب دوسرا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔ (ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ)

اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اپنے زمانہ قیام مدینہ میں اعتکاف نہیں کیا جس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اعتکاف کرنا فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر فرض اور واجب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال بھی اعتکاف نہ چھوڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ ایک سال اعتکاف نہیں فرمایا۔ اگرچہ اعتکاف ایک بہت بڑی نیکی ہے اور ایک ایسی سنت ہ جس پر عمل کیا جانا چاہیے (اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سالہا سال اس پر عمل پیرا رہے) لیکن ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا تاکہ فرض و واجب یا سنت میں فرق واضح ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی بنابر فقہاء کے درمیان اعتکاف کی نوعیت میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے۔ اگر ایک سال نہیں کیا تو دوسرا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن مزید اعتکاف میں بیٹھ کر اس کی قضاہا کی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور سنت موکدہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے اور ایسا مستحب ہے کہ اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عمل ہیں فقہاء نے یہ رائے ان کو دیکھ کر اختیار کی ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ وزن رکھتی ہیں۔

## الفَصْلُ الثَّانِي

حضرت رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے:

(143) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرِ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكِفِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تھے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف (اعتکاف کی جگہ) میں داخل ہو جاتے تھے۔ (ابوداؤد۔ ابن ماجہ)

معتکف سے مراد وہ جگہ ہے جو آدمی مسجد میں اپنے اعتکاف کے لیے بنائے۔ مسجد میں ایک پردہ ساٹکا کر اپنے لیے خلوت پیدا کر لی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے تھے۔

امام او زاعی اور امام ثوری رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اعتکاف کی ابتداء فجر کے وقت سے ہوتی ہے۔ بعض دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی ابتداء مغرب کے وقت سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر آدمی ۲۱ تاریخ سے اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو وہ ۲۰ تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد اعتکاف میں بیٹھ جائے گا۔ ائمہ اربعہ اسی بات کے قائل ہیں اور وہ اپنی دلیل دوسری احادیث سے لاتے ہیں۔ لیکن جو فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ اعتکاف کا وقت ۲۰ تاریخ کی فجر سے شروع ہوتا ہے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

## حالتِ اعتکاف میں مریض کی عیادت کا مسنون طریقہ:

(144) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَبُوَّ مُعْتَكِفٌ فَيَمْرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعْرُجُ يَسْأَلُ عَنْهُ۔ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مریض کی عیادت کر لیتے تھے۔ بس آپ سیدھے مریض کے پاس جاتے تھے اور اس کی خیریت پوچھ کر واپس آجاتے تھے۔ (ابوداؤد)

آگے ایک حدیث آتی ہے کہ اعتکاف میں عیادت بھی نہیں کی جاسکتی اور وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے۔ یہاں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیادت کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی معمولی بیماری ہے اور اس سے کوئی خطرے اور پریشانی کی بات نہیں، تو اعتکاف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے نہیں جایا کرتے تھے لیکن اگر معلوم ہوتا کہ آدمی بہت سخت پیارہ ہے اور اس کی حالت قبل تشویش ہے تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے لیکن اس طرح کہ راستے میں کسی دوسرے کام کے لیے ٹھہرتے اور رکتے نہیں تھے۔۔۔۔۔ اس سے دونوں حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں اور ان کا ظاہری اتضار فرع ہو جاتا ہے۔

## حالتِ اعتکاف میں ممنوع کام، اور اعتکاف کی دو شرطیں:

(145) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَسْبَدُ جَنَازَةً وَلَا يَمْسُسُ الْمَرْأَةَ وَلَا يُنَاهِيَ إِلَيْهَا لِحَاجَةٍ إِلَّا لَمَّا لَبِدَ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصُومٍ وَلَا اعْتِكَافٌ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ۔ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس کے ساتھ جسم مس کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے۔ بجز اس حاجت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا چارہ نہ ہو۔ اور کوئی اعتکاف نہیں ہے بغیر روزے کے، اور کوئی اعتکاف نہیں ہے مگر مسجد جامع میں۔ (ابوداؤد)

اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اعتکاف کے جو احکام بیان کیے ہیں ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ معتکف مریض کی عیادت نہ کرے۔ گزشتہ حدیث اور اس حدیث کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عام حالت میں مریض کی عیادت نہ کرنی چاہیے لیکن اس صورت میں جب کہ مریض کی حالت تشویش کے قابل ہو عیادت کی جاسکتی ہے۔ معتکف کے لیے دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ نہ جائے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ وہ بیوی کے قریب نہ جائے۔ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی حدیث گزر چکی ہے کہ وہ حضور کے بال ٹھیک کر دیتی تھیں در انحالیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تو ہاتھ لگانے کی اجازت دی مگر خود ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ البتہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی دوسرے کا گھر اس طرح مسجد کے ساتھ نہیں ہوتا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس لیے اس معاملے میں حکم وہی رہے گا جو معروف ہے۔

اس حدیث سے یہ حکم بھی معلوم ہوا کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی روزے سے نہ ہو مگر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو۔

آخری حکم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بیان فرمایا کہ اعتکاف نہیں ہے مگر مسجد جامع میں فقہاء کے درمیان اس کے مفہوم میں اختلاف پیدا ہوا ہے بعض فقہاء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اعتکاف اُس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جمعہ قائم کیا جا رہا ہو، یعنی اس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو۔ اس سے اختلاف کرتے ہوئے فقہاء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے تاہم مسجد جامع کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جس میں جماعت ہوتی ہو یعنی کوئی شخص ایسی ویران مسجد ملاش کر کے وہاں جا کر اعتکاف میں نہ بیٹھ جائے جہاں نمازوں کی آمد و رفت نہ ہو کیونکہ اس صورت میں وہ اکیلا ہی نماز پڑھتا رہے گا اور جماعت کی نماز سے محروم رہے گا اعتکاف کی نیکی تو اس نے کی لیکن جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ اس لیے اگر مسجد جامع سے ایسی مسجد مرادی جائے تو پھر اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کیونکہ ویران مسجد میں اعتکاف کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں۔

## الفصل الثالث

**حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معتکف کی کیفیت:**

(146) عَنْ أَبِي عُمَرْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ إِذَا اعْتَكَفَ طَرَحَ لِفِرَاشَةُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرٌ وَرَاءَ أَسْطُوانَةَ التَّوْبَةِ. رَوَاهُ أَبْنَ مَاجَ

حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا رادہ فرماتے تھے تو (مسجد نبوی میں) توبہ والے ستون کے ساتھ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھادیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پائی بچھادی جاتی تھی۔ ”(ابن ماجہ)

توبہ والا ستون جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے اب تک مسجد نبوی میں موجود ہے۔ اس پر **أَسْطُوانَةُ التَّوْبَة** کے الفاظ لکھتے ہوئے ہیں۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت ابوالباب رضی اللہ عنہ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی قریظہ کے پاس بطور سفیر کے بھیجا تو انہوں نے گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ انہیں یہ بتا دیا کہ اب تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ چیز گویا ایک فوجی اور جنگی راز دشمنوں پر ظاہر کرنے کے ہم معنی تھی اس پر سخت گرفت کی گئی۔ چنانچہ جب حضرت ابوالباب رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ جب تک میری معافی نہیں ہو گی اس وقت تک نہ تو میں اپنے آپ کو کھولوں گا اور نہ کچھ کھاؤں پیوں گا۔ وہ اس حالت میں بندھ رہے رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گرپڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی آئی تو ان کو کھولا گیا۔۔۔۔۔ اس ستون کو آج تک مسجد نبوی میں محفوظ رکھا گیا ہے اور اس کے قریب بنی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔

**معتکف کے حق میں لکھی جانے والی نیکیاں:**

(147) وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكَفِ: هُوَ يَعْتَكِفُ الدُّنُوبُ وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كُعَالِيَ الْحَسَنَاتِ كُلُّهَا . رَوَاهُ أَبْنَ مَاجَ

حضرت عبد اللہ بن عباس (رضی اللہ عنہما) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنیف (اعتكاف کرنے والا) کے بارے میں فرمایا: اعتكاف کرنے والا چونکہ (اعتكاف کے زمانے میں) گناہوں سے رُکار ہتا ہے اس لیے اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس شخص کے حق میں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل پیرا ہو۔ (ابن ماجہ)

اعتكاف کرنے والا اعتكاف کی وجہ رکا ہوا تو گناہوں سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا معاملہ اس کے ساتھ یہ ہے اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جو اس دوران میں وہ مسجد سے باہر ہونے کی صورت میں کرتا۔۔۔ یعنی یہ بات تو نہیں لکھی جاتی کہ اگر وہ مسجد سے باہر رہتا تو یہ بدی کرتا، لیکن یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر وہ باہر رہتا تو یہ نیکی کرتا۔۔۔ یہ خلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فیاضانہ اور مر بیانہ معاملہ ہے کہ گناہ تو اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ آدمی سے اس کا صدور نہ ہو جائے اور پھر جتنا گناہ صادر ہوتا ہے صرف اسی قدر لکھا جاتا ہے لیکن نیکی کا معاملہ جدا ہے۔۔۔ صرف یہی نہیں کہ بندہ مومن کے حق میں وہ نیکی لکھی جاتی ہے جو اس سے صادر ہوتی ہے بلکہ وہ نیکی بھی لکھ دی جاتی ہے جس کے متعلق یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ اس کا موقع ملنے کا صورت میں وہ اسے انجام دیتا۔ اسی طرح اگر اس کے دل میں نیکی کا ارادہ ہی آیا ہو اور وہ اسے کسی وجہ سے پورانہ کر سکا ہو تو بھی وہ نیکی اس کے حق میں لکھ دی جاتی ہے (جب کہ محض گناہ کا ارادہ کرنے پر اس وقت تک کوئی موآخذہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے) یہ خاص معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ وہ فیاض ہے جتنا چاہے اپنی طرف سے کسی کو دے۔۔۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نیکی کے بغیر آجر کا مستحق ٹھہرایا جانا عجیب بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بادشاہ اپنی خوشی سے دیتا ہے تو اس پر کسی کے اعتراض کرنے کی کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے۔